



5275CH01

# 1 باب

## مینجمنٹ کی نوعیت اور اہمیت

### (NATURE AND SIGNIFICANCE OF MANAGEMENT)

#### ایچ سی ایل (HCL) میں مینجمنٹ

سکھنے کے مقاصد  
اس باب کے مطالعے کے  
بعد آپ:

■ مینجمنٹ کی خصوصیات  
اور تنظیم میں اس کی  
اہمیت کی وضاحت  
کر سکیں گے؛

■ مینجمنٹ کی نوعیت کی  
وضاحت بطور سائنس،  
فن اور پیشہ کر سکیں گے

■ مینجمنٹ کے کاموں کی  
تشریح کر سکیں گے؛ اور

■ تال میل  
(Co-ordination)  
کی نوعیت و اہمیت کو سمجھ  
سکیں گے۔

ایک وقت تھا جب ہندوستان کے پاس کل 250 کمپیوٹر تھے، شیونادار نے نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم بنائی جو کہ IT کی گھریلو صنعت کی نشوونما پر یقین رکھتی تھی۔ 1976 میں دہلی کی ایک ”برساتی“ (Barsaati) میں جنمی یہ دوراندیشی تین دہائیوں کے بعد 3.5 بلین امریکی ڈالر کے عالمی ادارے کے قیام کا سبب بنی۔ آج ایچ سی ایل IT صنعت کی رہنما ہے جس میں 41000 پیشہ ور ملازمین ہیں اور امریکہ، یورپ، جاپان اور آسیان میں واقع تقریباً 16 ممالک میں اس کی عالمی طور پر موجودگی ہے۔ آج ایچ سی ایل کا کاروبار IT ہارڈویئر سازی اور ان کی تقسیم، انٹی گریشن سسٹم، تکنیکی اور سافٹ ویئر خدمات، بزنس پرائسز آؤٹ سورسنگ اور انفرا سٹرکچر مینجمنٹ پر مشتمل ہے۔ آئی ٹی خدمات اور عالمی ٹکنالوجی میں HCL ادارہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔

HCL کے گھریلو مائیکرو کمپیوٹر کو ترقی دینے کے بنیادی منصوبہ سے 1978 میں (Apple) کے ساتھ ساتھ اور IBM سے تین سال قبل ( سود مند نتائج حاصل ہوئے۔ کئی صنعتی مشاہدین اس کو ہندوستانی کمپیوٹر صنعت کی پیدائش خیال کرتے ہیں۔ اپنے قائدین کی قابل رہنمائی میں اس ادارے نے 1988 میں اپنے عالمی کاموں کا آغاز امریکہ میں کیا۔ شیونادار کی جو حکم اٹھانے کی خاصیت مشہور ہے انھوں نے اپنے مستقبل کے عزم و یقین کی بنیاد پر اکثر پرخطر کام کیے۔ اس وقت جب کہ ہارڈویئر کا کاروبار کافی پھل پھول رہا تھا نادار نے آئی ٹی کی تعلیم و تحصیل کے میدان میں امکانی ترقی کا اندازہ کیا جس کے نتیجے میں NIIT کا جنم ہوا۔ اس کے بعد بھی جب سافٹ ویئر کی ترقی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی شیونادار نے قیادت کی اور آج HCL عالمی بازاروں میں ایک جانی مانی قوت ہے۔ HCL کے مینجمنٹ کا ڈھانچہ ہندوستان میں دو فہرست شدہ کمپنیوں پر مشتمل ہے۔ ایچ سی ایل ٹکنالوجی اور ایچ سی ایل انفوسسٹمز۔

HCL کے چیئر مین اور CEO، شیونادار اپنے گروپ کی کامیابی کا حق دار اپنی مینجمنٹ ٹیم اور اس کے کاروباری حوصلے کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے HCL، ٹکنالوجی اور ماحول میں ہونے والی تیز تر تبدیلیوں سے نمٹنے کے قابل بنا۔ اسی ٹیم اور اس کے حوصلے کی بدولت اندیشے مواقعوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس عمل کا بنیادی عنصر دراصل ان غیر یقینی حالات میں ترقی کرنا تھا جن میں گروپ کام کرتا تھا، اس میں تنظیم کی از سر نو تشکیل، بازار کی تخلیق، ٹکنالوجی کو بڑھاوا دینا، اور کاروبار کے دائرے کو وسعت دینا شامل ہے۔ کسی بھی دوسرے کاروباری ادارے کی طرح، بطور ادارہ HCL کی بقا اور نشوونما کے لیے بھی منافع اہمیت رکھتا ہے۔

HCL میں مینجمنٹ کا یقین ہے کہ ایک مطمئن ملازم ایک مطمئن صارف تخلیق کرتا ہے جس کے نتیجے میں منافع پیدا ہوتا ہے اور پھر حصے دار (Share holders) مطمئن ہو جاتے ہیں۔

HCL کو سماجی ذمہ داری کا پھر بھی زبردست احساس ہے۔ اس نے مینجمنٹ، انجینئرنگ اور کمپیوٹر کی تعلیم کے میدان میں تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں جس میں ایک تہائی طلبا کی تعداد لڑکیوں پر مشتمل ہے۔

شیونادار کے مطابق، مستقبل کا تعلق ایسے عالمی کاروباری ادارے سے ہے جو کہ عالمی معیشت کے چیلنجوں کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا اہل ہو۔

www.hcl.in : ماخذ

## تعارف

کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی بنایا جائے وہ بازار کی ضرورت کے مطابق ہو۔ سوہاسنی کے ان منصوبوں کو قصبائی فن کاروں کو بھیج دیتی ہیں جو دراصل ان منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

فیب مارکٹ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کی متعدد شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا تنظیمی ڈھانچہ پیچیدہ ہے جس میں حقیقی پیداوار کا کام کئی ماہر فن کاروں کے ہاتھ میں ہے اور مارکنگ کا کام مختلف شاخوں کے عملے کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ ایک شاخ میں مینجمنٹ کا کام سوہاسنی کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو مسلسل ہدایات اور ترغیب فراہم کرتی رہیں۔ انھیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ پیداوار منصوبوں کے مطابق کی جائے تاکہ فروخت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

سوہاسنی کی زندگی کا ہر کاروباری دن ایک دوسرے سے جڑے، مسلسل کاموں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے دیوالی اور کرسمس کے لیے مخصوص تہواروں میں استعمال ہونے والے مال کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زیادہ فنڈس کا مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے

مذکورہ بالا مثال ایک ایسے کامیاب ادارے کی مثال ہے جو کہ ہندوستان کی اعلیٰ کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس مقام پر اپنے مینجمنٹ کے معیار کی وجہ سے پہنچا ہے۔ مینجمنٹ کی ضرورت سبھی طرح کے اداروں میں ہوتی ہے چاہے وہ کمپیوٹر ساز ہوں یا ہینڈ لوم ہوں، اشیائے صرف کے تاجر ہوں یا بال سنوارنے کی خدمات فراہم کرنے والے ہوں۔ یہاں تک کہ غیر کاروباری تنظیموں میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں۔

سوہاسنی، فیب مارٹ نامی ایک تنظیم کی برانچ مینجر ہیں۔ یہ ادارہ ہندوستانی دستکاری اور ہینڈ لوم کے مال کی فروخت کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ روایتی فن کاروں کو مناسب ملازمت فراہم کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ فیب مارٹ اپنے مال کو، پورے ہندوستان سے 7500 سے زائد فن کاروں اور کاری گروں سے حاصل کرتا ہے۔ مال کی منصوبہ بندی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ یہ کام مارکنگ اور ڈیزائننگ کے ماہرین کے ذریعہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے

کے مقاصد کا حصول ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے اور ایک دوسرے پر منحصر کام مینجمنٹ کا حصہ ہیں۔ کامیاب ادارے اپنے مقاصد کو غیر شعوری طور پر حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ ان مقاصد کی حصولیابی کے لیے ایک شعوری اور دانستہ طریقہ کار اپناتے ہیں جسے مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔

مینجمنٹ تمام تنظیموں کے لیے ضروری ہے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، منافع کمانے والے ہوں یا غیر منفعتی خدمات مہیا کرنے والے ہوں یا اشیا سازی کرنے والے۔ مینجمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہر فرد اجتماعی مقاصد کے لیے بہترین کوشش کرے۔

مینجمنٹ ایک دوسرے سے جڑے کاموں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے جو کہ تمام تنظیمیں کے ذریعہ انجام دیے جاتے ہیں۔ HCL ایئر پرائز کا CEO شیونادار تمام کاموں کو فیب مارٹ کی سوہاسنی کی طرح ہی انجام دیتا ہے۔ اس باب میں آگے چل کر آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ حالانکہ یہ دونوں ہی مینجر ہیں لیکن یہ دونوں تنظیم کی مختلف سطحوں پر کام

اور زیادہ فن کاروں کو بھرتی کرنا پڑے گا۔ اسے اپنے سپلائرز کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم رکھنا پڑتا ہے تاکہ اشیا کی حوالگی بروقت ہو سکے۔ دن کے خاتمہ پر وہ گاہکوں سے عام تاثر (فیڈ بیک) معلوم کرنے کے لیے ملتی ہیں اور ان اشیا کے بارے میں ان سے تجاویز بھی لیتی ہیں۔

سوہاسنی فیب مارٹ کی مینجر ہے۔ اسی طرح بومبے ڈانگ کی نسلی واڈیہ، مائیکروسافٹ کے بل گیٹس، ایچ سی ایل ایئر پرائز کے شیونادار، پیپسی کوکی اندرانوئی اور آپ کے اسکول کے منتظم آپ کے پرنسپل ہیں۔ یہ تمام لوگ تنظیموں کا مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اسکول، اسپتال، دکانیں اور بڑی کارپوریشنس مختلف مقاصد رکھنے والے ایسے ادارے ہیں جن کا مقصد کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی تنظیم ہو یا اس کے کچھ ہی مقاصد ہوں لیکن چند چیزیں ان سب میں یکساں ہوتی ہیں وہ ہیں مینجمنٹ اور تنظیمیں۔

آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بطور مینجر سوہاسنی کا کام مختلف سلسلہ وار سرگرمیوں یا کاموں پر مشتمل ہے جن کا مقصد ادارے

### مینجمنٹ کی تعریفیں (Definitions of Management)

”مینجمنٹ ایک ایسے ماحول کو تشکیل کرنے اور بنائے رکھنے کا عمل ہے جس میں افراد گروپوں کی شکل میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، منتخب مقاصد کو موثر طور پر حاصل کرتے ہیں۔“

—Harold Koontz and Heinz Wehrich.

”مینجمنٹ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم کے کاموں کی منصوبہ بندی کرنے، اس کو آرگنائز کرنے، عمل درآمد کرانے اور کنٹرول کرنے کا عمل ہے تاکہ انسانی اور مادی وسائل میں ایک تال میل قائم ہو سکے جو کہ مقاصد کے موثر حصول کے لیے ضروری ہے۔“

—Robert L. Trawelly and M. Gene Newport.

”مینجمنٹ تغیر پذیر ماحول میں محدود وسائل کا موثر طور پر استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ نیز ان کے وسیلے سے کام انجام دینے کا عمل ہے تاکہ تنظیمی مقاصد کو موثر طور پر حاصل کیا جاسکے۔“

—Kreintner

بندی، تنظیم، عملے کی فراہمی، ہدایات اور کنٹرول کرنا ہیں جن کا مطالعہ ہم اس باب میں آگے چل کر کریں گے۔

کام کے موثر ہونے یا کام موثر طور پر کرنے سے مراد دیے گئے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ مینجمنٹ میں موثریت (Effectiveness) کا تعلق صحیح طور پر کام کرنے، سرگرمیوں کو مکمل کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا تعلق اختتامی نتائج سے ہے۔

لیکن کام کو مکمل کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے یعنی کفایت (Efficiency) کا ہونا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کام کو کفایت کے ساتھ کام کرنا۔

کفایت سے مطلب ہے کام کو درست طور پر اور کم از کم لاگت کے ساتھ انجام دینا۔ اس میں لاگتی فائدے کا تجزیہ اور لگائے گئے وسائل اور پیداوار کے درمیان تعلق شامل ہے۔ اگر کم وسائل کا استعمال کر کے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کفایت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کفایت میں اس وقت بھی اضافہ ہوتا ہے جب چند وسائل کا استعمال کر کے یا کم لاگت لگا کر پہلے جیسی ہی پیداوار یا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہو۔ کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے مطلوبہ اور ضروری وسائل میں روپیہ، خام مال اوزار اور افراد شامل ہیں۔ مینجمنٹ کا تعلق ان وسائل کے کفایت مندانہ یا باصلاحیت استعمال سے ہے کیونکہ ان کی وجہ سے لاگتیں کم ہوتی ہیں اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔

### موثریت بنام کفایت

#### (Effectiveness versus Efficiency)

یہ دونوں اصطلاحات مختلف ہیں لیکن ان کا آپس میں باہمی تعلق ہے۔ مینجمنٹ کے لیے موثریت اور کفایت دونوں اہم

کرتے ہیں۔ بہر حال مختلف کاموں میں مینجروں کے ذریعے صرف کیا جانے والا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تنظیم کی نجلی سطح کے مقابلے میں تنظیم کی اعلیٰ سطح پر مینجر منصوبہ بندی اور تنظیم کاری میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔

### تصور (Concept)

مینجمنٹ ایک بہت مشہور اصطلاح ہے جس کا وسیع طور پر استعمال ہر طرح کی سرگرمیوں کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن خصوصی طور پر اس کا استعمال کسی ادارے میں مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا جاتا ہے

جیسا کہ آپ نے مندرجہ بالا مثال اور کیس اسٹڈی میں مشاہدہ کیا کہ مینجمنٹ ایک ایسی سرگرمی ہے جو ایسی جگہوں پر ضروری ہے جہاں لوگ اجتماعی طور پر ایک تنظیم میں کام کرتے ہوں۔ تنظیموں میں لوگ مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن وہ سب ہی یکساں مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ مینجمنٹ کا مقصد یکساں مقاصد کے حصول کے لیے ان کی کوششوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس طرح، مینجمنٹ یہ دیکھتا ہے کہ کام کی تکمیل اور مقاصد کا حصول (موثریت کے ساتھ) کم سے کم لاگت پر اور کم سے کم وسائل (کفایت) کے ساتھ ہو جائے۔

اس لیے مینجمنٹ کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقاصد کے حصول کے لیے کفایتی اور موثر طور پر کام لینے کا عمل ہے۔ ہمیں اس تعریف کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کئی اصطلاحات ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ ہیں

(a) عمل Process (b) موثر طور پر (Effectively) اور

(c) کفایتی طور پر (Efficiently)۔

عمل سے مراد وہ ابتدائی سرگرمی یا کام ہے جو کہ مینجمنٹ کام لینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ یہ کام منصوبہ

## مینجمنٹ کی خصوصیات (Characteristics of Management)

چند تعریفوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں چند ایسے عناصر کا پتہ چلتا ہے جنہیں مینجمنٹ کی بنیادی خصوصیات کہا جاسکتا ہے۔

(i) مینجمنٹ ہدف کی سمت میں کیا جانے والا عمل ہے (Management is a goal-oriented process): ایک تنظیم کے متعدد بنیادی ہدف ہوتے ہیں جو کہ اسے قائم کرنے کا بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ یہ سادہ اور واضح طور پر بیان ہونے چاہئیں۔ مختلف تنظیموں کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک خوردہ اسٹور کا مقصد فروخت میں اضافہ کرنا ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان کی اسپاٹک سوسائٹی کا مقصد مخصوص ضرورتوں والے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا ہے۔ مینجمنٹ ان مقاصد کے حصول کی جانب مختلف افراد کی کوششوں کو متحد کرتا ہے۔

(ii) مینجمنٹ کا تمام جگہ پھیلاؤ ہے (Management is all pervasive): تمام تنظیموں میں چاہے وہ معاشی ہوں، سماجی یا سیاسی ہوں ان میں ادارے کا مینجمنٹ کرنے کی یکساں سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ ایک پیٹرول پمپ کا مینجمنٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک اسپتال یا ایک اسکول کا مینجمنٹ کرنا۔ نیجروں کا جو کام ہندوستان میں ہے وہی کام امریکہ، جرمنی اور جاپان میں بھی ہے۔ وہ اس کام کو کیسے انجام دیتے ہیں یہ ذرا مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ فرق تاریخ، ثقافت اور رواج میں امتیازات کی بنا پر ہے۔

ہیں۔ موثریت اور کفایت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ لیکن ان دونوں پہلوؤں میں توازن کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات مینجمنٹ کو کفایت کے معاملے میں سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً موثر ہونا آسان ہے اور کفایت کو نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے۔ یعنی دیے گئے کام کو زیادہ لاگت پر مکمل کیا جاسکتا ہے۔ فرض کیجیے ایک کمپنی کا نشانہ ایک سال میں 5,000 اکائیوں کی پیداوار ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نیچر کو دو شفٹوں میں کام کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر وقت بجلی موجود نہیں رہتی۔ نیچر 5000 اکائیاں بنانے کا نشانہ حاصل کرنے کا اہل ہے لیکن زیادہ پیداواری لاگت پر۔ اس صورت میں نیچر نے موثریت (Effectiveness) سے کام کیا لیکن کفایت سے نہیں کیونکہ یکساں پیداوار کے لیے زیادہ وسائل (مزدوری، لاگت اور بجلی) کا استعمال کیا گیا۔

بعض اوقات، ایک کاروبار چند وسائل کا استعمال کر کے زیادہ اشیا کی پیداوار پر توجہ مرکوز کرتا ہے یعنی نشانہ کی پیداوار کو نہ حاصل کر کے لاگت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نتیجتاً اشیا بازار تک نہیں پہنچتیں اور ان کی مانگ میں گراوٹ آجاتی ہے جس کی وجہ سے مد مقابل (Competitors) بازار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت موثر نہ ہو کر محض اہل ہونے کی ہے کیونکہ اشیا بازار تک نہیں پہنچتیں۔

اس لیے، مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وسائل کے ذریعے مقاصد حاصل ہوں یعنی جتنا ممکن ہو کفایت کے ساتھ ہو اور موثریت و کفایت میں توازن قائم رہے۔ اکثر اعلیٰ کفایت کو اعلیٰ موثریت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو کہ تمام نیچروں کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن موثر ہوئے بغیر اعلیٰ کفایت پر بے جا زور دینا بھی بہتر نہیں ہے۔ خراب مینجمنٹ کی بڑی وجہ غیر کفایتی اور غیر موثریت دونوں ہی ہیں۔

- (iii) مینجمنٹ کثیر جہتی ہوتا ہے (Management is multidimensional): مینجمنٹ ایک پیچیدہ سرگرمی ہے اور اس کی تین اہم جہتیں ہیں جو یہ ہیں:
- (a) کام کا مینجمنٹ: تمام تنظیموں کا وجود چند کاموں کو انجام دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی فیکٹری میں مال تیار کیا جاتا ہے، کسی

### GE کا مینجمنٹ منتر (The Management Mntra from GE)

1981 میں جیک ویلچ کو GE کا سی ای او مقرر کیا گیا۔ اس وقت فرم کی بازاری اثاثہ 13 بلین ڈالر تھا۔ 2000 میں جب وہ اپنے عہدے سے ہٹا تو فرم کا لین دین کئی گنا بڑھ کر 500 بلین ڈالر ہو چکا تھا۔ ویلچ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس نے نیچروں کو کامیاب مینجر بنانے کے لیے حسب ذیل نکات تدوین کیے:-

- ایک خواب تخلیق کرو اور اس کے بعد اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی تنظیم میں آگ سی لگا دو۔ لوگوں کو اپنے کام کے لیے اتنا جذباتی کرو کہ وہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار تک نہ کر سکیں۔ نتائج کے حصول اور لوگوں کو حوصلہ مند اور پرجوش کرنے کی صلاحیت اور مقابلہ کرنے کے جذبے کے لیے تمہارے پاس بھرپور توانائی ہونی چاہیے۔ ایسے رہنماؤں کو تلاش کرو جن میں یہ خصوصیات موجود ہوں۔
- کلیدی یا اہم معاملات پر توجہ: تمہارا کام اپنے ہر ایک کاروبار میں موجود اہم مسئلوں کو سمجھنا ہے۔ ان بازاروں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ذہانت و صلاحیت کی نشان دہی کرو۔
- اہم مسئلے پر توجہ: تمہارا کام بڑے بڑے تصورات قائم کرنا ہے۔ ہر ایک تفصیل کا مینجمنٹ مت کرو۔ خود کو باریکیوں میں مت الجھاؤ بجائے اس کے دوسروں کو اپنے چند خوابوں کی تکمیل کے لیے ترغیب دو۔ اپنے اطراف میں کام کے لوگوں کو رکھو اور ان کے کام میں ان پر اعتماد کرو اور تنظیم کے لیے ان کی بہترین کوششوں اور کاوشوں کو اپنے ساتھ لو۔
- ہر ایک کو اپنے ساتھ لاؤ اور ہر جانب سے عظیم خیالات کو خوش آمدید کہو: ہر کوئی ایک رہنما بن سکتا ہے بشرطیکہ تنظیمی کاموں میں حصہ لے اور ہر ایک کے لیے حصہ لینے کا بہترین اور بامعنی طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا خیال یا مشورہ ظاہر کرے۔ کاروبار ہر کسی سے اس کے بہترین خیالات حاصل کرنے کا نام ہے۔ نئے خیالات تنظیم کی جان ہیں۔ یہ وہ ایندھن ہے جس سے تنظیم دوڑتی ہے۔ ”بہر وہ شخص ہے جس کے پاس نیا خیال ہو۔“ درحقیقت ایک تنظیم کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کسی بات کی نہیں ہے جتنی ایک خواب کی تخلیق اور خیالات کے اظہار کی ہے۔
- مثال قائم کر کے رہنمائی کرو: دوسروں میں کام کو انجام دینے کا جذبہ بھارنے کے لیے، آپ کو مثال قائم کر کے رہنمائی کرنی لازمی ہے۔ جیک ویلچ (Jack Welch) کے بیان کردہ چار قائدانہ اصول ہمیشہ مشعل راہ ہوں گے۔ یہ اصول انگریزی کے حرف 'E' سے شروع ہوتے ہیں یعنی (i) Energy (توانائی) (ii) Energise (حوصلہ افزائی) (iii) Edge (مقابلہ جاتی حوصلہ) اور (iv) Execution (نفاذ)۔ ”اس کے پاس عظیم توانائی تھی، اس نے دوسروں کو حوصلہ مندی عطا کی، اس کے پاس بہترین مقابلہ کرنے کی ہمت تھی، اور پروگراموں کو نافذ کرنے اور ان کو عمل میں لانے کا اس کا ریکارڈ ایسا تھا کہ اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی۔“ یہی ویلچ کے غیر معمولی ہونے کی کنجی ہے۔ اگر خود ویلچ میں یہ خوبیاں نہ ہوتیں تو وہ شہرت کے اس بلند مرتبے پر نہ پہنچتا۔

کے لیے اب تک سب سے اہم کام ”دوسروں سے کام لینا ہی ہے“۔ مینجمنٹ کرنے والوں کی دو جہتیں ہیں (i) اس سے مراد مختلف ضرورتوں اور رویوں کے حامل افراد سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ (ii) اس سے مراد لوگوں کے افراد سے اجتماعی تعلق رکھنا بھی ہے۔ مینجمنٹ کا کام تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں سے کام لینا ہے۔ مینجمنٹ لوگوں کی قوت کو مؤثر بنا کر اور ان کی کمزوریوں کو غیر متعلق مان کر یہ عمل انجام دیتی ہے۔

(c) کاموں کا مینجمنٹ: چاہے جو بھی تنظیم ہو اسے اپنی بقا کے لیے چند بنیادی اشیا یا

کپڑے کی دوکان میں گاہکوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور کہیں کسی اسپتال میں مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مینجمنٹ اس کام کو حاصل کیے جانے والے مقاصد کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ یہ کام، مسائل کو حل کر کے، فیصلے لے کر، منصوبے بنا کر، بجٹ تیار کر کے، ذمہ داریاں سونپ کر، اور اختیارات دے کر انجام دیا جاتا ہے۔

(b) لوگوں کا مینجمنٹ: انسانی وسائل یا لوگ کسی تنظیم کا عظیم اثاثہ ہوتے ہیں۔ ملنا لوجی میں تمام تر ترقی کے باوجود ایک مینجر

مل جل کر ہر شخص زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے



جاتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ فیب مارٹ میں سوہاسنی متعدد کاموں کو ایک ہی دن میں انجام دے دیتی ہیں۔ اور کسی دوسرے دن وہ اپنا وقت ملازمین کے مسائل کو جاننے میں صرف کرتی ہیں۔ مینجر کا کام کاموں کے ایک جاری رہنے والے سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے۔


مینجمنٹ ایک اجتماعی سرگرمی ہے (Management is a group activity): ایک تنظیم مختلف

ضروریات کے حامل مختلف افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ گروپ کے ہر فرد کا مقصد اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن تنظیم کے ممبران کی حیثیت سے وہ یکساں تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک یکساں سمت

خدمات فراہم کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسے پیداواری عمل کی ضرورت ہوتی ہے جو خام مال، وسائل اور ٹکنالوجی کے بہاؤ کو تبدیل کر کے کھپت کے لیے درکار تیار مال میں بدل دے۔ اس کا باہمی تعلق کام کے مینجمنٹ اور لوگوں کے مینجمنٹ دونوں سے ہے۔

(iv) مینجمنٹ ایک مسلسل عمل ہے (Management is a continuous process)

مینجمنٹ ایک مسلسل، مشترکہ لیکن علاحدہ کاموں (منصوبہ بندی، تنظیم کاری، ہدایات کاری، عملے کی فراہمی اور کنٹرول کرنے) کا عمل ہے۔ یہ کام تمام مینجروں کے ذریعے بہ یک وقت ایک ساتھ انجام دیے



مینجمنٹ —  
ایک کنٹرول جہتی سرگرمی

## مینجمنٹ کے مقاصد

### (Objectives of Management)

مینجمنٹ کسی سرگرمی کے مطلوبہ نتائج سے مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان مقاصد کا حصول کسی بھی کاروبار کی بنیادی غرض ہوتی ہے۔ کسی بھی تنظیم میں مختلف مقاصد ہوتے ہیں اور مینجمنٹ کو ان تمام مقاصد کو موثر اور سلیقہ مندی سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقاصد کی درجہ بندی تنظیمی، سماجی اور ذاتی یا انفرادی مقاصد کے اعتبار سے کی جاسکتی ہے۔

(i) تنظیمی مقاصد (Organizational Objectives)

مینجمنٹ تنظیم کے مقاصد کے تعین اور حصول کے لیے ذمے دار ہوتی ہے۔ اس کو تمام فریقوں کے مفاد کا خیال کرتے ہوئے تمام میدانوں میں مختلف مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ ان فریقوں میں حصے دار، ملازمین، صارف اور حکومت شامل ہیں۔ کسی بھی تنظیم کا خاص مقصد انسانی اور مادی وسائل کو ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ افادیت کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی کہ کاروبار کے معاشی مقاصد کو پورا کرنا جن میں بقا (Survival)، منافع (Profit) اور نشوونما (Growth)۔

بقا: بقا کسی بھی کاروبار کا بنیادی مقصد ہے۔ مینجمنٹ کو ادارے کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بقا حاصل کرنے کے مقصد سے ایک ادارے کو اپنی لاگتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی محصولات کمانا لازمی ہے۔

منافع: کاروبار کے لیے محض بقا کا ہونا کافی نہیں ہے مینجمنٹ کو اس بات کو بھی یقینی بنانا پڑتا ہے کہ ادارہ

میں انفرادی کوشش کے تال میل اور ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک منظمہ کی ذمے داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام افراد (ملازمین) کو تغیر پذیر ضرورتوں اور مواقع کے مطابق نشوونما پانے اور پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کرے۔

(vi) مینجمنٹ ایک متحرک عمل ہے (Management is a dynamic function)

مینجمنٹ ایک متحرک عمل ہے اور اس انتظام کو تغیر پذیر ماحول کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ ایک تنظیم کو خارجی ماحول کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ماحول مختلف سماجی، معاشی اور سیاسی عوامل پر مشتمل ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ایک ادارے کو ماحول کی ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ میں اور اپنے مقاصد میں تبدیلی کرنا لازمی ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ فاسٹ فوڈ کے لیے مشہور میک ڈونالڈ (Mc Donalds) نے ہندوستانی بازار میں کامیابی اور بقا حاصل کرنے کے لیے اپنے مینو میں اہم تبدیلیاں کیں۔

(vii) مینجمنٹ ایک ناقابل دید قوت ہے (Management is an intangible force)

مینجمنٹ ایک غیر مرئی قوت ہے جس کو دیکھا نہیں جاسکتا لیکن تنظیم کے کام کرنے کے طریقہ سے اس کی موجودگی کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ایک ایسا ادارہ جہاں منصوبوں کے مطابق نشانوں کو پورا کیا جاتا ہو، ملازمین خوش اور مطمئن ہوں، اور جہاں ہنگامہ آرائی کی جگہ ترتیب ہو وہاں مینجمنٹ کے اثر و نفوذ کا پتہ چل جاتا ہے۔

مقام قائم رکھنے کے لیے مینجمنٹ کو ادارے کی نمو کی لیاقت کو مکمل طور پر بروئے کار لانا ضروری ہے۔ کاروباری نشوونما کی پیمائش فروخت میں اضافہ، ملازمین کی تعداد، مال کی تعداد و مقدار یا سرمایہ کاری میں اضافہ وغیرہ سے کی جاتی ہے۔ نشوونما کی دیگر علامتیں بھی ہو سکتی ہیں۔

(ii) سماجی مقاصد (Social Objectives): اس مقصد کے تحت، کسی بھی تنظیم کی سماج کے

منافع کمائے۔ ادارے کے کام کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے منافع زبردست ترغیب فراہم کرتا ہے۔ کاروباری جوکھم اور لاگتوں کو پورا کرنے کے لیے منافع ضروری ہے۔

نشوونما: کاروبار کو طویل مدت میں پیش آنے والے امکانات کو اپنی ضرورت میں شامل کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کاروبار کی نشوونما ضروری ہے۔ صنعت میں اپنا

### آئی ٹی سی (ITC) دیہی ہندوستان کو بااختیار بنا رہا ہے

ایک خاموش ڈیجیٹل انقلاب ہندوستان کے دور دراز دیہاتوں کے کسانوں کی زندگیوں میں تشکیل پارہا ہے۔ ان دیہاتوں میں کسان زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہزاروں سال سے سویا بین، گیہوں اور کافی اگاتے آ رہے ہیں۔ روایتی گاؤں میں بجلی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، ٹیلی فون کی لائین دقیا نوسی ہو چکی ہیں۔ کسان زیادہ تر ناخواندہ ہیں اور انھوں نے کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اب ان دیہاتوں کے کسانوں نے ای۔چوپال نامی ایک ابتدا کے ذریعہ ای کاروبار کی شروعات کر دی ہے جو کہ ITC کے ذریعہ تخلیق کیا گیا ہے ITC ہندوستان کی اشیائے صرف اور زراعتی کاروبار کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔

ITC کی ای۔چوپال کاروباری اداروں کے ذریعے اپنی سماجی ذمے داری کو پورا کرنے کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد دیہی ہندوستان کے کسانوں کو براہ راست بازار کاری کے ذرائع کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنا اور بڑی تعداد میں بچوں اور ان کے ہاتھوں مال کی بربادی نیز غیر ضروری سودا لگتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ای۔چوپال دیہی ہندوستان میں سے کسی کمپنی کے ذریعے انفارمیشن ٹکنالوجی پر مبنی واحد سب سے بڑی شروعات ہے، جس نے ہندوستانی کسانوں کو ترقی پسند اور علم کے متلاشی شہریوں میں تبدیل کر دیا ہے اور انھیں قوت عمل سے مالا مال اور بااختیار بنا کر ایک نئے بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے۔

ای چوپال کسان کی فیصلہ لینے کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق علم اور معاصر معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس میں زراعتی پیداوار کو بازاری مانگ سے جوڑنا بہتر طور پر بہتر معیار اور پیداواری صلاحیت حاصل کرنا، بہتر قیمتوں کی کھوج کرنا شامل ہیں۔ چونکہ دیہی سیکٹر میں تعلیمی سطح کم ہے اس لیے گاؤں کا رہنما کسان جسے چوپال سچا لک کہا جاتا ہے اس کا رول اس پراجیکٹ میں مرکزی ہے۔ یہ چوپال سچا لک کسانوں اور کمپیوٹر مینل کے درمیان مادی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ای۔چوپال اسمارٹ کارڈ، ضرورت کے مطابق ای ویب سائٹ پر معلومات فراہم کرنے کے لیے کسان کی شناخت کیا کرتا ہے۔ استعمال کی مقدار اور مالیت کے لیے کسانوں کو انعامات سے نوازنے کی خاطر آن لائن سودوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔

ای چوپال کا مطالعہ ہاورڈ بزنس اسکول میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر کیا جا رہا ہے جو کہ غریب دیہاتیوں کی بھلائی کے لیے، ایک بڑے کاروباری ادارے کے ذریعے جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی مثال ہے۔

ماخذ: موہن بیبر ساہنی، میک کورمیک ٹریبون پروفیسر آف ٹکنالوجی،

کیلوگ اسکول آف مینجمنٹ، امریکہ

بھی تنظیم کا جزو لازم ہے۔ آئیے اب ہم چند ایسے امور کا تجزیہ کریں جنہوں نے مینجمنٹ کو اتنا اہم بنا دیا ہے:

(i) مطلوبہ مقاصد کے حصول میں مدد (Management helps in achieving

group goals): مینجمنٹ کی ضرورت خود اس

کے لیے نہیں ہوتی اپنے بلکہ اس کی ضرورت تنظیم کے

مقاصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مینجر کا

کام تنظیم کے تمام تر مقاصد کو حاصل کرنے میں

انفرادی کوشش کو ایک مشترکہ سمت فراہم کرنا ہے۔

(ii) مینجمنٹ لیاقت میں اضافہ کرتا ہے (Management increases efficiency)

ایک مینجر کا مقصد بہتر منصوبہ بندی، تنظیمی صلاحیت، ہدایات، عملے کی فراہمی اور تنظیم کی سرگرمیوں میں باقاعدگی پیدا کر کے کم لاگت پر پیداوری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔

(iii) مینجمنٹ ایک فعال تنظیم کی تخلیق کرتی ہے (Management creates a dynamic organisation)

تمام اداروں کو ایسے ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے جو مسلسل

تغیر پذیر رہتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ

ادارے کے افراد تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے

ہیں کیوں کہ اس کا مطلب اکثر ایک جانے پہچانے

اور محفوظ ماحول سے، ایک نئے اور زیادہ چیلنج بھرے

ماحول کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ مینجمنٹ ان تبدیلیوں

کے مطابق لوگوں کو ڈھلنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ادارہ

مقابلہ کرنے کی خاصیت و برتری کو قائم رکھ سکے۔

لیے افادیت شامل ہے۔ سماج کے ایک حصے کے

طور پر، ہر ادارے کو، خواہ وہ کاروباری ہو غیر کاروباری،

سماجی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس سے مراد

سماج کے مختلف تشکیلی عناصر کے لیے مستقل طور معاشی

قدر (Economic Value) کو تخلیق کرنا ہے۔

اس میں پیداوار کے دوستانہ ماحول کے طریقوں کا

استعمال کرنا، سماج کے کمزور طبقوں کو روزگار کے

مواقع فراہم کرنا، بنیادی سہولیات جیسے اسکولوں اور

ملازمین کے لیے دارالاطفال وغیرہ کی فراہمی شامل

ہیں۔ پچھلے صفحے پر دیا گیا باکس اس بات کو ظاہر کرتا

ہے کہ ایک کمپنی اپنی سماجی ذمہ داری کو کیسے پورا

کرتی ہے۔

(iii) ذاتی مقاصد (Personal Objectives):

تنظیمیں مختلف شخصیات، پس منظر، تجربات اور مقاصد

رکھنے والے لوگوں سے تشکیل پاتی ہیں۔ یہ سبھی لوگ

اپنی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تنظیم کا حصہ

بنتے ہیں۔ یہ ضرورتیں مالی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں

جیسے بہتر تنخواہ اور انعامات، سماجی ضروریات بھی ہو سکتی

ہیں جیسے سماج میں اپنے مقام و حیثیت کی شناخت اور

اعلیٰ سطحی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں جیسے ذاتی نشوونما

اور ترقی۔ مینجمنٹ افراد کے ذاتی اغراض کو ادارے

کے مفادات و مقاصد سے ہم آہنگ کروا رہی ہے۔

## مینجمنٹ کی اہمیت (Importance of

## Management)

ہم جان چکے ہیں کہ مینجمنٹ ایک آفاقی سرگرمی ہے جو کہ کسی

تہذیب و تمدن کے وقت سے ہی وجود میں آچکی تھیں۔ درحقیقت تنظیموں کو، غیر مہذب سماج سے مہذب سماج کو علاحدہ کرنے والا ایک خط فاصلہ مانا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں مینجمنٹ ان اصول و ضوابط کا مجموعہ تھے جو سرکاری اور کاروباری سرگرمیوں سے حاصل شدہ تجربات کی بنیاد پر وضع کیے گئے تھے۔ تجارت اور کامرس کی ترقی رفتہ رفتہ مینجمنٹ کے اصولوں اور طور طریقوں کی ترقی کا باعث بنی۔

آج مینجمنٹ کی اصطلاح کے کئی معنی ہیں جو اس کی نوعیت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مینجمنٹ کے مطالعے کا ارتقا ایک طویل عرصے میں جدید تنظیموں کے ساتھ ساتھ ہوا ہے جو کہ مینجروں کی عمل آوری اور تجربات اور ان کے درمیان نظریاتی رشتوں کی بنیاد پر استوار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہمہ جہت مضمون بن چکا ہے جس کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ بہر حال، ایک سوال جس پر توجہ دی جانی ضروری ہے وہ مینجمنٹ کی نوعیت سے متعلق ہے کہ آیا مینجمنٹ ایک سائنس ہے یا ایک فن ہے یا پھر یہ دونوں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آئیے ہم سائنس اور فن دونوں کی خصوصیات کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ مینجمنٹ انہیں کس حد تک پورا کرتا ہے۔

### مینجمنٹ ایک آرٹ کی حیثیت سے

#### (Management as an art)

آرٹ (فن) کیا ہے؟ فن مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ علم کا ہنرمندانہ اور ذاتی استعمال ہے۔ اس کو تجربات، مشاہدے اور مطالعے کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ آرٹ کا تعلق علم کے ذاتی استعمال سے ہے اس لیے سیکھے گئے بنیادی اصولوں کو بروئے کار لانے میں

(iv) مینجمنٹ ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے

(Management helps in achieving personal objectives)

ایک مینیجر اپنی ٹیم کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی اس طرح کرتا ہے کہ انفرادی ممبران تمام تر تنظیمی مقاصد کے لیے کوشاں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ مینجمنٹ رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے ذریعے کارکنوں کی ٹیم کے اندر تعاون اور اجتماعی کامیابی، کے لیے لگن کے جذبے کو بیدار کرنے میں مدد کرتی ہے۔

(v) مینجمنٹ سماج کی ترقی میں مدد کرتی ہے

(Management helps in the development of society)

ادارہ اپنے مختلف گروپوں کے تئیں کثیر مقاصد رکھتا ہے۔ ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے عمل میں مینجمنٹ ادارے کی ترقی میں مدد کرتا ہے اور اس کے ذریعے یہ سماج کی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ یہ اچھے معیاری اشیاء اور خدمات کی فراہمی، روزگار کے مواقع کی تخلیق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے نئی ٹکنالوجی کو اپنانے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح ترقی اور نشوونما کی راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔

### مینجمنٹ کی نوعیت

#### (Nature of Management)

مینجمنٹ اتنا ہی قدیم ہے جتنی ہماری تہذیب۔ حالانکہ جدید تنظیمیں دور حاضر کی پیداوار ہیں لیکن تنظیمی سرگرمیاں قدیم

مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کرتا ہے مینجمنٹ کے مختلف میدانوں جیسے بازار کاری، مالیات نیز انسانی وسائل پر بہت سی تحریریں اور کتابیں دستیاب ہیں جن میں نیچر کو مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ مینجمنٹ میں نظریاتی علم موجود ہی ہے۔

مینجمنٹ کے مختلف مفکرین نے مینجمنٹ کے مختلف نظریات پیش کیے ہیں اور انہوں نے چند آفاقی اصول پیش کیے ہیں۔ ایک نیچر ان سائنسی طریقوں اور اس منظم مجموعہ معلومات کو دیے گئے حالات، یا مسائل میں اپنے انفرادی انداز سے استعمال کرتا ہے۔ ایک اچھا نیچر اپنی قوت عمل، تخلیقیت، پرواز تخیل اور اپنی اختراعی صلاحیتوں کا استعمال کر کے، اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ ایک نیچر طویل عرصے تک عملی طور پر کام کرنے کے بعد ہر طرح سے کمال اور اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ مینجمنٹ کے طالب علم ان اصولوں کو مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ان میں تخلیقی صلاحیت کیسی ہے۔

ایک نیچر موجودہ حقائق کی روشنی میں اپنے حاصل کیے ہوئے علم کو شخصی طور پر اور ہنرمندانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ وہ ادارے کی سرگرمیوں سے چونکہ براہ راست وابستہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پیچیدہ حالات کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور خود اپنے افکار کو نئی شکل و صورت میں اس موقع محل پر استعمال کرتا ہے اور اسی کی بنا پر مینجمنٹ کے مختلف طریقے وجود میں آتے ہیں۔

بہترین نیچر نہایت ذمہ دار اور حوصلہ مند ہوتے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جن میں نہ صرف بلند نظری، عالی حوصلگی، تخلیقیت اور پیش بینی جیسی

ایک قسم کی جدت اور تخلیق کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی فن کی بنیادی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(i) نظریاتی علم کی موجودگی (Existence of theoretical knowledge): فن

میں پیشگی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس فن کا ایک نظریاتی علم موجود ہے۔ ہر فن کے متعلق ماہرین چند بنیادی اصول تدوین کر لیتے ہیں جو کہ اس خاص شکل کے فن میں قابل استعمال ہوتے ہیں مثلاً قص، عوامی بول چال، اداکاری یا موسیقی پر تحریروں کی موجودگی سے ہر شخص واقف ہے۔

(ii) شخصی استعمال (personalised application)

اس بنیادی علم کا استعمال مختلف لوگ مختلف ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ اس لیے آرٹ (فن) بہت شخصی نظریہ ہے۔ مثال کے طور پر دو رقص، دو مقرر، دو اداکار یا دو مصنف اپنے آرٹ کو ظاہر کرنے میں ہمیشہ مختلف ہوں گے۔

(iii) فن کی بنیاد عمل اور تخلیقیت پر ہوتی ہے (Based on practice and creativity)

تمام آرٹ عملی ہیں۔ آرٹ موجودہ نظریاتی علم کے تخلیقی عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیقی میں سات بنیادی سروں کا استعمال کس طرح اپنے تخلیقی انداز میں ہوتا ہے۔

مینجمنٹ کو ایک آرٹ یا فن کہا جاسکتا ہے کیوں کہ یہ درج ذیل شرائط کو پورا کرتا ہے:

(i) ایک کامیاب نیچر کسی ادارے میں روز مرہ کے مینجمنٹ کاموں کی انجام دہی اپنے مطالعے،

مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ میں سائنس کی چند خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔

(i) مینجمنٹ کے پاس بھی علم کی ایک منظم شاخ ہے۔ اس کے بھی اپنے اصول اور نظریات ہیں جن کا ایک طویل مدت میں ارتقا ہوا ہے لیکن اس نے دیگر مضامین جیسے معاشیات، عمرانیات، نفسیات اور ریاضی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ کسی بھی دیگر منظم سرگرمی کی طرح مینجمنٹ کے پاس اپنی اصطلاحات اور نظریات کا اپنا ذخیرہ ہے۔ مثال کے طور پر، ہم سب کرکٹ اور فٹ بال سے متعلق گفتگو میں ایک جیسا ذخیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کھلاڑی بھی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مینجمنٹ بھی اپنے کام یا کاروباری مشاغل کی بہتر تفہیم کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں یکساں ذخیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

(ii) مینجمنٹ کے اصولوں کا ارتقا ایک لمبے عرصے میں اور مختلف قسم کی تنظیموں میں بار بار کیے گئے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہوا ہے۔ بہر حال، چوں کہ مینجمنٹ کا تعلق انسانوں اور انسانی برتاؤ سے ہے اس لیے ان تجربات کے نتائج کی ٹھیک ٹھیک پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی۔ اس مینجمنٹ کو ایک نرم سائنس (Inexact Science) کہا جاسکتا ہے۔ ان خامیوں کے باوجود مینجمنٹ کے اسکالروں نے مینجمنٹ کے عام اصولوں کے نشان دہی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایف ڈبلیو ٹیلر کے سائنسی مینجمنٹ کے اصول اور ہنری فے یال (Henry Fayol) کے عملی مینجمنٹ کے اصول جنہیں آپ اگلے باب میں پڑھیں گے۔

خصوصیات ہوتی ہیں بلکہ وہ خود اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی ترقی کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں جس سے ان کا تعلق ہے۔ مینجمنٹ کے تمام عمل ایک ہی جیسے اصولوں کے مجموعے پر مبنی ہیں۔ ایک کامیاب مینجر اور ایک کم کامیاب مینجر میں فرق صرف اس صلاحیت کا ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ ان اصولوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

## مینجمنٹ بحیثیت سائنس

### (Management as a Science)

سائنس علم کی وہ مرتب و منظم شاخ ہے جو کچھ عام حقیقتوں یا عمومی قوانین کے طریق کار کی وضاحت کرتی ہے۔ سائنس کی بنیادی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

#### (i) علم کی منظم شاخ (Systematised)

body of knowledge: سائنس معلومات

(ii) کا ایک منظم مجموعہ ہے۔ اس کے اصول ”وجہ اور اثر کے تعلق“ (Cause & effect relationship)

پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر پیڑ سے سیب کے زمین پر گرنے کے واقعہ کی وضاحت ثقل کشش کے قانون کے ذریعے کی گئی۔

#### (ii) اصول تجربات پر مبنی ہوتے ہیں (Principles)

based on experiments: سائنسی

اصول پہلے مشاہدے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں اور پھر کنٹرول کیے گئے حالات میں بار بار تجربات کر کے ان کی جانچ کی جاتی ہے۔

#### (iii) آفاقی تصدیق (Univesal Validity)

سائنسی اصول آفاقی طور پر تصدیق شدہ اور قابل اطلاق ہوتے ہیں۔

### چند دلچسپ بین شعبہ جاتی امکانات

انسانیات: انسانیات سماجوں کا مطالعہ ہے جو انسان اور اس کی سرگرمیوں کو جاننے کے بارے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ماہر انسانیات تمدنوں اور ماحول پر کام کرتے ہیں۔ مثلاً وہ مختلف تنظیموں کے اندر نیز مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان بنیادی اقدار، رویوں اور برتاؤ کے فرق کو سمجھنے میں مینیجرز کی مدد کرتے ہیں۔

معاشیات:۔ معاشیات کا تعلق قلیل وسائل کو مختص کرنے (Allocate) اور تقسیم کرنے سے ہے۔ یہ عالمی تناظر میں آزاد بازار، مسابقت کے رول اور بدلتی ہوئی معیشت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ عالمی بازار میں کام کرنے والے کسی بھی مینیجر کے لیے آزاد تجارت اور تحفظاتی پالیسیوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اور یہ وہ مضامین ہیں جن پر ماہرین معاشیات توجہ دیتے ہیں۔

فلسفہ: فلسفہ کا موضوع اشیا کی ماہیت کی تحقیق ہے خاص طور پر اقدار اور اخلاقیات کے حوالے سے۔ اخلاق وہ معیار ہے جو انسان کے طرز عمل پر لاگو ہوتا ہے۔ فلسفہ اخلاقیات نے کاروبار اور کارپوریٹ کی شکل کی توجیہ پیش کر کے، ان کے لیے ایک قانونی جواز فراہم کیا ہے اور ان کی کارکردگی کو انعامات سے جوڑ کر دور حاضر کی تنظیموں کی تشکیل کی ہے۔

سیاسیات: سیاسیات سیاسی ماحول کے اندر افراد اور گروپوں کے رویے کا مطالعہ ہے۔ مینجمنٹ ملکی حکومت کی شکل سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ اپنے شہریوں کو جائیداد رکھنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، کیا اس کے شہری معاہدہ کرنے اور اس کو نافذ کرنے کے اہل ہیں یا نہیں، یہاں تکلیفات کی بھری پائی کے لیے اپیل کرنے کا نظام موجود ہے یا نہیں۔ جائیداد، معاہدوں اور انصاف سے متعلق ایک ملک کا نظریہ اس کی تنظیموں کی پالیسیوں، اقسام اور شکل کو تشکیل کرتا ہے۔

نفسیات: نفسیات وہ سائنس ہے جو انسانوں اور دیگر حیوانوں کے رویے کی پیمائش، وضاحت اور بعض اوقات ان میں تبدیلی بھی کرتی ہے۔ آج کے مینیجرز کو مختلف قسم کے ملازمین اور مختلف قسم کے صارفین سے سابقہ پڑتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے جنسی اور ثقافتی تنوع کو سمجھنے کی جو کاوشیں کی ہیں ان سے مینیجرز کو نہ صرف صارفین کی ضرورتوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی ہے بلکہ اپنے ملازمین کی آبادیوں کو بھی صحیح طور پر سمجھنے میں ان کو مدد ملی ہے۔ نفسیات کے مختلف کورس مینیجرز کے لیے اس لیے بھی معنویت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو ملازمین کی ذہنی آمادگی، قیادت، اعتماد، ملازمین کے انتخاب، ان کی کارکردگی اور ٹریننگ کی تکنیکوں کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔

عمرانیات: عمرانیات لوگوں کے آپسی رشتوں کے تعلق کا مطالعہ ہے۔ وہ کون سے چند عمرانیاتی مسائل ہیں جن کا تعلق مینیجرز سے ہوتا ہے؟ چند مسائل یہ ہیں: سماجی تبدیلیاں جیسے عالم کاری، بڑھتا ہوا ثقافتی تنوع، تبدیل ہوتے ہوئے نسلی کردار، اور خانگی زندگی کی مختلف شکلیں کس طرح تنظیمی کاموں کو متاثر کرتی ہیں؟ اسکولی کاموں اور تعلیمی رجحانات کا مستقبل کے ملازمین کی صلاحیت اور ہنر پر کیا اثر ہے؟ ان سوالات کے جوابات کا مینیجرز کے ذریعے کیے جانے والے اپنے کاروباری کاموں کی انجام دہی پر خاص اثر پڑتا ہے۔

ماخذ: فنڈ امینٹلس آف مینجمنٹ

اسٹیفن پی. رابنس Stephen P. Robins

ڈیویڈ اے، ڈی سینزو David A decenzo

(iii) چونکہ مینجمنٹ کے اصول سائنس کے اصولوں کی طرح سخت نہیں ہوتے اس لیے ان کا استعمال بھی آفاقی (Universal) نہیں ہے۔ ان کے اندر دیے گئے

ہم ایک پیشے کی خصوصیات کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کیا مینجمنٹ ان پر پورا اترتا ہے۔

(i) کسی پیشے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں:  
بہتر طے شدہ مجموعہ علم (Well - defined  
(body of knowledge): تمام پیشے بہتر  
طے شدہ مجموعہ علم پر مبنی ہوتے ہیں جس کو تعلیم کے  
ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(ii) محدود اور مشروط داخلہ (Restricted  
entry): کسی پیشے میں داخلہ کسی امتحان یا تعلیمی  
ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ مثال کے  
طور پر ہندوستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بننے کے لیے  
ایک امیدوار کو انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ آف  
انڈیا کے ذریعے منعقدہ ایک مخصوص امتحان پاس کرنا  
ہوتا ہے۔

(iii) پیشہ ورانہ انجمن (Professional Associ-  
ation): تمام پیشے ایک پیشہ ورانہ انجمن سے ملحق  
ہوتے ہیں جو داخلے کو باضابطہ بناتی ہے، کام کرنے  
کی سند عطا کرتی ہے اور ایک ضابطہ اخلاق کو وضع  
کرتی ہے اور اسے نافذ کرتی ہے۔ ہندوستان میں  
وکالت کرنے کے لیے وکیلوں کو بار کونسل کا کارکن  
ہونا ضروری ہے جو ان کی سرگرمیوں کو باضابطہ بناتی  
اور کنٹرول کرتی ہے۔

(iv) ضابطہ اخلاق (Ethical code of  
conduct): تمام پیشے ایک ضابطہ اخلاق کے  
تحت کام کرتے ہیں۔ یہی ضابطہ اخلاق اس کے  
ممبران کے برتاؤ کی رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے

حالات کے مطابق ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ بہر حال یہ  
مینیجر کو چند معیاری تکنیکیں ضرور فراہم کرتے ہیں  
جن کو مختلف حالات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان  
اصولوں کا استعمال مینیجروں کی تربیت اور ترقی کے  
لیے بھی کیا جاتا ہے۔

آپ گذشتہ گفتگو سے سمجھ چکے ہوں گے کہ مینجمنٹ  
میں سائنس اور آرٹ دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔  
مینجمنٹ کا عمل ایک آرٹ ہے۔ بہر حال مینیجر اس وقت بہتر  
کام انجام دے سکتے ہیں اگر ان کا عمل مینجمنٹ کے اصولوں  
پر مبنی ہو۔ یہ اصول مینجمنٹ کی سائنس کو تشکیل کرتے ہیں۔  
اس لیے مینجمنٹ بحیثیت سائنس اور بحیثیت آرٹ باہمی طور  
پر جدا نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

## مینجمنٹ بحیثیت ایک پیشہ

### (Management as a profession)

آپ اب تک سمجھ چکے ہیں کہ ہر ایک طرح کی منظم سرگرمی کو  
مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ  
تنظیموں کو مخصوص لیاقت اور تجربہ رکھنے والے افراد کی تلاش  
ہوتی ہے جو کہ ان کا مینجمنٹ سنبھال سکیں۔ یہ بھی مشاہدہ کیا  
گیا ہے کہ ایک طرف تو کارپوریٹ شکل کے کاروبار میں  
اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کاروباری اداروں کے  
مینجمنٹ پر کافی زور دیا جا رہا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ  
مینجمنٹ ایک پیشہ ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے

بحیثیت ڈاکٹر یا وکیل کام کرنے کے لیے قابل قبول ڈگری کا ہونا ضروری ہوتا ہے پوری دنیا میں مینجر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص ڈگری ہو۔ البتہ پیشہ ورانہ معلومات اور تربیت کو ضروری لیاقت خیال کیا جاتا ہے کیوں کہ ایسے لوگوں کی زیادہ مانگ ہے جن کے پاس مشہور اداروں کی ڈگری یا ڈپلوما ہوتے ہیں۔ اس طرح مینجمنٹ پیشہ کے دوسرے معیار پر بھی مکمل طور سے پورا نہیں اترتا۔

ہندوستان میں بحیثیت مینجر کام کرنے والوں کی کئی انجمنیں ہیں مثلاً آل انڈیا مینجمنٹ ایسوسی ایشن (AIMA) جو اپنے ممبران کی سرگرمیوں کو باضابطہ بنانے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق و عمل کی تدوین کرتی ہے۔ بہر حال مینجروں کے لیے ایسی انجمنوں کا ممبر بننا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی ایسی انجمنوں کی کوئی قانونی پشت پناہی ہے۔

مینجمنٹ کا بنیادی مقصد ادارے کے اپنے مطلوبہ نشانے کو حاصل کرنے میں مدد دینا ہے۔ یہ نشانہ کسی کاروباری ادارے کے لیے منافع کو انتہا درجہ تک بڑھانا بھی ہو سکتا ہے اور کسی اسپتال کے لیے خدمت کی فراہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بہر حال منافع کا زیادہ سے زیادہ کرنا اب مینجمنٹ کا مقصد واحد نہیں رہا ہے۔ اس میں تیزی سے تبدیلی آرہی ہے۔ اس لیے، اگر ایک ادارے کے پاس اچھی مینجمنٹ ٹیم موجود ہے جو کہ اہل بھی ہے اور موثر بھی تب یہ واجب داموں پر اچھے معیار کی اشیا کو فراہم کر کے اپنے آپ ہی معاشرے کی خدمت کرتی ہے۔

طور پر تمام ڈاکٹر اپنے پیشے میں داخلے کے وقت ایک ضابطہ اخلاق پر عمل کرنے کا حلف لیتے ہیں۔

(v) خدمت کا مقصد (Service Motive): پیشے کا بنیادی مقصد احساس ذمہ داری اور ایثار کے ساتھ خدمات انجام دے کر اپنے موکلوں/صارفین کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک وکیل کا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے موکل کو انصاف ملے۔

مینجمنٹ پیشہ کے معیار پر مکمل طور پر پورا نہیں اترتا۔ پھر بھی اس مینجمنٹ میں پیشے کی چند خصوصیات موجود ہیں:

(i) تمام دنیا میں مینجمنٹ بحیثیت ایک مضمون یا موضوع مطالعہ بہت مقبول ہو رہا ہے۔ یہ علم کے ایک منظم مجموعے (Body of knowledge) پر مبنی ہے جس میں مختلف کاروباری حالات کی بنیاد پر بنائے گئے طے شدہ اصول شامل ہیں۔ یہ علم مختلف کالجوں، پیشہ ورانہ اداروں سے بڑی تعداد میں موجود کتابوں اور رسالوں کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ مضمون مختلف اداروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ مینجمنٹ کی تعلیم فراہم کرنے کے مخصوص مقصد سے ہی قائم کیے گئے ہیں جیسے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (IIMS)۔ مختلف اداروں میں داخلہ عموماً امتحان کے ذریعے ہوتا ہے۔

(ii) کسی بھی کاروباری ادارے میں کسی شخص کے لیے بحیثیت مینجر تقرری پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو مینجر کہا جاسکتا ہے چاہے اس کے پاس تعلیمی لیاقت ہو یا نہ ہو۔

طب یا قانون جیسے پیشوں کے برخلاف جن میں

## انتظامی سطوح

### (Levels of Management)

اعلیٰ سطح کے یہ منیجر ادارے کی فلاح اور بقا کے لیے ذمے دار ہوتے ہیں۔ وہ کاروباری ماحول اور فرم کی بقا کے لیے اس کے مضمرات (Implications) کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ ادارے کے تمام مقاصد اور ان کے حصول کے لیے حکمت عملیوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ کاروبار کی تمام سرگرمیوں اور سماج پر ان کے اثرات کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ منیجر کا کام پیچیدہ، تھکا دینے والا اور زیادہ دقت طلب ہوتا ہے اور جس کی انجام دہی کے لیے ادارے کے تین لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔

#### درمیانی سطح کا منیجمنٹ (Middle)

(Management) یہ اعلیٰ سطح اور نچلی سطح کے منیجروں کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ یہ منیجر اعلیٰ سطح کے منیجروں کے ماتحت اور نچلی سطح کے منیجروں کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کو شعبہ جاتی سربراہ (Division heads)، عملی منیجر (Operations Manager) یا پلانٹ

سپرینٹنڈنٹ کہا جاتا ہے۔ درمیانی منیجمنٹ اعلیٰ منیجمنٹ کے ذریعے بنائے گئے منصوبوں اور حکمت عملیوں کو رو بہ عمل لانے اور کنٹرول کرنے کے لیے ذمے دار ہوتی ہے۔ یہ منیجمنٹ نچلی سطح کے منیجروں کی تمام تر سرگرمیوں کے لیے بھی ذمے دار ہوتی ہے۔ ان کا اہم کام اعلیٰ منیجروں کے ذریعے تشکیل دیے گئے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس کے لیے انھیں مندرجہ ذیل کام انجام دینے ہوتے ہیں: (i) اعلیٰ سطح کے منیجمنٹ کی بنائی گئی پالیسیوں کی وضاحت

شیونادار اور سہاسنی دونوں ایک ادارے کے منیجر ہیں۔ شیونادار ایچ سی ایل کے سی ای او ہیں اور سہاسنی فیب مارٹ کی براؤنچ منیجر ہیں۔ دونوں اپنے ادارے کا منیجمنٹ مختلف سطحوں پر کرتے ہیں۔ منیجمنٹ ایک آفاقی اصطلاح ہے جس کا اطلاق کسی ادارے میں افراد کے ذریعے کیے جانے والے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے جو باہم آپس میں تعلقات کے ایک نظام مراتب (Hierarchy) کے پابند ہوتے ہیں۔ اس نظام مراتب میں ہر فرد ایک مخصوص کام کی کامیاب تکمیل کے لیے ذمے دار ہوتا ہے۔ ذمے داری کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ اختیار یا فیصلہ لینے کا حق دیا جاتا ہے۔ اختیار ذمہ داری (Authority-Responsibility) کا یہ تعلق افراد کو سربراہ اور ماتحت کے طور پر جوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ادارے میں مختلف سطوحیں وجود میں آجاتی ہیں عام طور پر ایک ادارے کے نظام مراتب کی تین سطوحیں ہوتی ہیں:

#### (i) اعلیٰ سطح کا منیجمنٹ (Top Management):

یہ سطح سب سے سینئر عہدے داروں پر مشتمل ہوتی ہے چاہے انھیں کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ عام طور پر انھیں چیئر مین، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریٹنگ آفیسر، صدر اور نائب صدر کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ منیجمنٹ منیجروں کی ایک ٹیم پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تعلق مختلف عملی سطحوں سے ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی کام ادارے کے مقاصد کے مطابق مختلف عناصر کو متحد کرنا اور مختلف شعبوں کی سرگرمیوں میں تال میل قائم کرنا ہوتا ہے۔



آپ مینجمنٹ صرف کتابوں سے نہیں  
سیکھتے

سپروائزر کارکنوں کے کاموں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں ان کے اختیارات اور ذمے داری اعلیٰ مینجمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے منصوبوں کے مطابق محدود ہوتی ہے۔ نگرانی مینجمنٹ ادارے میں نہایت اہم رول ادا کرتی ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق حقیقی کارکنوں سے ہوتا ہے اور یہ درمیانی سطح کی انتظامیہ کو کارکنوں کے سلسلے میں ہدایات بھی دیتی ہے۔ حالانکہ نگرانی کار مینجمنٹ کی کوششیں پیداوار کے معیار کو قائم رکھنے، خام مال کی بربادی کو کم کرنے اور حفاظتی معیاروں کو بنائے رکھنے کی ہوتی ہے لیکن درحقیقت کارکردگی کے معیار اور پیداوار کی مقدار کا انحصار سخت محنت، نظم و ضبط اور کارکنوں کی وفاداری پر ہوتا ہے۔

کرنا۔ (ii) اس بات کی نگرانی رکھنا کہ شعبے میں عملہ پورا ہو۔ (iii) انھیں ضروری فرائض اور ذمے داریاں تفویض کرنا۔ (iv) ادارے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انھیں ذہنی طور پر آمادہ کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ (v) دوسرے شعبوں کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ تنظیم کو بہتر طور پر چلایا جاسکے۔

اس کے ساتھ ساتھ درمیانی سطح کے مینیجر نچلی سطح کے مینیجروں کی تمام سرگرمیوں کے لیے ذمے دار ہوتے ہیں۔  
(iii) نگرانی کار یا عملی مینجمنٹ (Supervisory

or Operational Management)

ادارے کے نظام مراتب (Hierarchy) کی نچلی سطح چیوری کے نمائندوں (Foremen) اور نگرانی کاروں (Super Visors) پر مشتمل ہوتی ہے۔

## منیجمنٹ کے کام


### (Functions of Management)

کپڑوں اور سجاوٹ کے ساز و سامان کو فروخت کرتا ہے۔ سوہاسنی کو مذکورہ بالا تمام اشیاء کے رنگوں، اقسام اور مقدار کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اسے مختلف سپلائرز سے خریداری کے لیے وسائل کو جمع کرنا پڑتا ہے یا پھر ان وسائل کے ذریعے انھیں خود ہی اپنے کارخانے میں تیار کرانا پڑتا ہے۔ منصوبہ بندی مشکلات کو روک نہیں سکتی لیکن ان کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتی ہے اور ان کے رونما ہونے کی صورت میں یہ ان سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبوں کو تیار کرتی ہے۔

منصوبہ بندی (Planning): منصوبہ بندی پیشگی طور پر یہ طے کرنے کا کام ہے کہ کیا کیا جانا ہے اور اس کو کون انجام دے گا۔ اس سے مراد مقاصد کو پہلے سے طے کرنا اور ان کو موثر طور پر حاصل کرنے کے طریقے کا تعین کرنا ہے۔ سوہاسنی کے ادارے کا مقصد ہندوستان کی روایتی دست کاری اور ہینڈلوم کی اشیاء کا حصول اور ان کی فروخت ہے۔ یہ ادارہ ہندوستان کے روایتی کپڑے سے بنی گھریلو اشیاء اور تیار شدہ

منیجمنٹ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیمی ممبران کے کاموں کی منصوبہ بندی کرنے، تنظیمی امور کو انجام دینے، ہدایات دینے، ان کو کنٹرول کرنے اور مقاصد کے حصول کے لیے تنظیمی وسائل کو استعمال کرنے کا عمل ہے۔

منصوبہ بندی (Planning): منصوبہ بندی پیشگی طور پر یہ طے کرنے کا کام ہے کہ کیا کیا جانا ہے اور اس کو کون انجام دے گا۔ اس سے مراد مقاصد کو پہلے سے طے کرنا اور ان کو موثر طور پر حاصل کرنے کے طریقے کا تعین کرنا ہے۔ سوہاسنی کے ادارے کا مقصد ہندوستان کی روایتی دست کاری اور ہینڈلوم کی اشیاء کا حصول اور ان کی فروخت ہے۔ یہ ادارہ ہندوستان کے روایتی کپڑے سے بنی گھریلو اشیاء اور تیار شدہ



انتظامی سطحیں

ان کی رہنمائی کرنا اور انھیں ترغیب دینا شامل ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے ماحول کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے جو ملازمین کو اپنے کاموں کو بہترین طور پر انجام دینے کے لیے حوصلہ افزا ہو۔ رہنمائی (Leadership) اور ترغیب (Motivation) ہدایت کاری کے دو اہم اجزا ہیں۔ کارکنوں کو ترغیب دینے سے مراد ایک ایسے ماحول کو تخلیق کرنا ہے جس کی بدولت وہ کام کرنا چاہیں۔ رہنمائی سے مراد دوسروں کو اس طرح متاثر کرنا ہے کہ جو رہنما چاہتا ہے وہی کام دوسرے لوگ انجام دیں۔ ایک اچھا مینجر کبھی تعریف اور کبھی تنقید کے ذریعے اس طرح ہدایت دیتا ہے کہ ملازمین اپنی بہترین کوششوں کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں۔ سوہاسنی کی ڈیزائن بنانے والی ٹیم نے بیڈ کور کے لے ریشم پر چمک دار رنگوں سے چند پرنٹس تیار کیے۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ دل فریب دکھائی دیتے تھے لیکن ریشم کے استعمال کی وجہ سے اوسط صارفین کے لیے یہ مال کافی مہنگا ہو گیا۔ ان کے کام کی ستائش کرتے ہوئے سوہاسنی نے انھیں صلاح دی کہ وہ ان ریشمی بیڈ کوروں کو خاص موقعوں جیسے دیوالی اور کرسمس وغیرہ کے لیے رکھ لیں اور مسلسل بنیاد پر (روزمرہ کے لیے) صرف کاٹن کے بیڈ کور ہی تیار کریں۔

کنٹرول کرنا (Controlling): یہ تنظیمی مقاصد کے حصول کے تئیں تنظیمی کارکردگی کی نگرانی رکھنے کا مینجمنٹ کام ہے۔ اس کام میں، کارکردگی کا معیار قائم کرنا، موجودہ کارکردگی کی پیمائش کرنا، اس کا قائم شدہ معیاروں کے ساتھ موازنہ کرنا اور جہاں کوئی انحراف پایا جائے وہاں درستگی کے اقدام کرنا شامل ہے۔ یہاں مینجمنٹ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کامیابی کے لیے کون سی سرگرمیاں اور پیداواریں اہم ہیں،

منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ضروری سرگرمیوں اور وسائل کا تجزیہ کرنا ہے۔ ضروری وسائل اور سرگرمیوں کا تعین کرنا اور یہ طے کرنا کہ کون کس کام کو انجام دے گا، یہ کام کہاں کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا۔ تنظیم کاری میں، ضروری کاموں کی قابل مینجمنٹ شعبوں یا اکائیوں میں گروپنگ کرنا اور تنظیمی نظام مراتب (Hierarchy) میں اختیارات اور جواب دہی کے تعلقات کو قائم کرنا شامل ہے۔ مناسب تنظیمی تکنیکیں کام کی تکمیل میں معاون ہوتی ہیں اور یہ کاموں کی لیاقت اور نتائج کی موثریت (Effectiveness) دونوں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ مختلف طرح کے کاروبار میں کام کی نوعیت کے مطابق مینجمنٹ کے مختلف ڈھانچوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلے باب میں پڑھیں گے۔

عملہ کی فراہمی (Staffing): عملے کی فراہمی سادہ الفاظ میں کہا جائے تو صحیح کام کے لیے درست لوگوں کو تلاش کرنے کا کام ہے۔ مینجمنٹ کا نہایت اہم پہلو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے صحیح لوگ صحیح لیاقتوں کے ساتھ صحیح جگہوں پر اور صحیح وقت میں دستیاب ہوں۔ اس کو انسانی وسائل کا کام بھی کہا جاتا ہے اور یہ عملے کی بھرتی، انتخاب اور تربیت جیسی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انفوسیز (Infosys) ٹیکنالوجیز جس نے سافٹ ویئر کو ترقی دی ہے اسے سسٹم اینالیسٹ اور پروگرامروں کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ فیب مارٹ کو ڈیزائنروں اور دست کاروں کی ایک ٹیم کی ضرورت ہے۔

ہدایت کاری (Directing): اس میں دیے گئے کاموں کی انجام دہی کے لیے ملازمین کو ذہنی طور پر تیار کرنا،

تال میل وہ قوت ہے جو کہ مینجمنٹ کے دیگر تمام کاموں کو جوڑتی ہے۔ تنظیم کی کارکردگی میں تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک ایسا مشترکہ دھاگہ ہے جو خریداری، پیداوار، فروخت اور مالیات (Finance) جیسی سرگرمیوں کو آپس میں پروتا ہے۔ تال میل کو بعض اوقات مینجمنٹ کا علاحدہ کام خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بہر حال مینجمنٹ کی روح (Essence) ہے جو گروپ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے انفرادی کوششوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ مینجمنٹ کا ہر کام تال میل پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی انفرادی کوشش ہے۔ تال میل تنظیم کے تمام کاموں میں مضمراور فطری طور پر ودیعت ہوتا ہے۔

ادارے کی سرگرمیوں میں تال میل کا کام منصوبہ بندی کے مرحلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ سطح کا مینجمنٹ پورے ادارے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ان منصوبوں کے مطابق انتظامی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے اور عملے کی فراہمی کی جاتی ہے۔ ان منصوبوں کو منصوبہ بندی کے مطابق عملی جامہ پہنانے کے لیے ہدایت کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کی گئی سرگرمیوں اور حقیقی سرگرمیوں کے درمیان کسی بھی انحراف کو کنٹرول کے مرحلے پر درست کیا جاتا ہے۔ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک مینجر تال میل کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا ترتیب وار مینجمنٹ کرتا ہے اور وحدت عمل (Unity of Action) کو یقینی بناتا ہے۔ اس لیے تال میل سے مراد ایک ادارے کی مختلف اکائیوں کے ذریعے کی جانے والی کوششوں یا کاموں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ یہ تال میل کی ضروری مقدار، معیار اور ترتیب فراہم کرتی ہے جس سے منصوبہ بند کیے گئے مقاصد کو کم از کم تنازعات اور ٹکراؤ کے ساتھ حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

ان کی کیسے اور کہاں پیمائش کی جاسکتی ہے اور درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے۔ جب سوہاسنی کو علم ہوا کہ اس کی ڈیزائنوں کی ٹیم نے ایسے بیڈ کور تیار کیے تھے جو کہ ان کے فروخت کے منصوبہ سے زیادہ مہنگے تھے تب اس نے لاگتوں کو کم رکھنے کے لیے کپڑے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

عام طور پر ایک مینجر کے مختلف کاموں کا تذکرہ مندرجہ بالا ترتیب میں کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مینجر پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کے بعد تنظیم کاری کرتا ہے، عملہ کو ان کی جگہوں پر رکھتا ہے، پھر ہدایات دیتا ہے اور آخر میں کنٹرول کرتا ہے۔ درحقیقت مینجر ان کاموں کو شاذ و نادر ہی الگ الگ انجام دے پاتے ہیں۔ مینجر کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور اس بات کو معلوم کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے کہ کب کون سی سرگرمی ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوگئی۔

## ”تال میل — مینجمنٹ کی روح“

### (Coordination — The Essence of Management)

اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایک تنظیم کے مینجمنٹ میں مینجر کو ایک دوسرے سے جڑے پانچ کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے۔ تنظیم ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو کہ باہمی طور پر منحصر اور مربوط مختلف ذیلی نظاموں سے بنا ہوتا ہے۔ مینجر کو یکساں مقصد کے حصول کے لیے ان مختلف گروپوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے ایک مینجر مختلف شعبوں کی سرگرمیوں کو بیک وقت انجام دیتا ہے تال میل (Coordination) کہلاتا ہے۔



تال میل نہ ہونے کا  
نتیجہ انتشار ہوتا ہے۔

### تال میل کی تعریفیں (Definitions of Coordination)

تال میل سے مراد ٹیم کے مختلف ممبران کو مناسب طور پر کام سپرد کر کے ان کو آپس میں متحد رکھنا اور ان کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ کاموں کی انجام دہی ممبران کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ ہو۔

E.F.L Brech

تال میل وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک ایگزیکٹو اپنے ماتحتوں کی اجتماعی کوششوں کی ترتیب سے انجام دہی کو ممکن بناتا ہے اور یکساں مقاصد کے لیے کام کے اتحاد کو حاصل کرتا ہے۔

Mc Farland

تال میل مناسب مقدار، وقت اور عملی معیار فراہم کر کے ماتحتوں کے کاموں کو ترتیب کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ ان کی متحدہ کوششیں بیان شدہ مقاصد کی جانب رہنمائی کریں جنہیں ادارے کا مشترک مقصد کہا جاتا ہے۔

Theo Haimanr

ایک وقت پر کیا جانے والا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ منصوبہ بندی کے مرحلے پر شروع ہوتا ہے اور کنٹرولنگ تک جاری رہتا ہے۔ سوہاسنی نے اپنے سردی کے مال کے لیے منصوبہ سازی جون کے ماہ میں کی تھی۔ اس کے بعد اس نے مناسب کارکنوں کو کام پر لگایا اور وہ مسلسل جائزہ لیتی رہتی تھی کہ آیا پیداوار منصوبوں کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں۔ اس لیے اپنے بازار کاری شعبے کو وقت پر اشتہارات سے متعلق ہدایات دینی پڑی تھیں۔

تال میل ہر جانب پھیلا ہوا کام ہے

(Coordination is an all perva-

sive function) مختلف شعبوں کی سرگرمیاں

ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مینجمنٹ کی تمام سطحوں پر تال میل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے مختلف شعبوں اور مختلف سطحوں کی کوششوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ سوہاسنی کو مینجمنٹ کے مقاصد کے حصول کے لیے خریداری، پیداوار اور فروخت کاری شعبوں کے کاموں میں تال میل کرنا پڑا۔ خریداری شعبہ کپڑے کی خریداری کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ پیداواری شعبہ کی سرگرمی کی بنیاد بن جاتا ہے اور فروخت کی نوبت آخر میں آتی ہے۔ اگر گھٹیا معیار کا کپڑا خریدا گیا ہو یا اس کا معیار پیداواری شعبے کے ذریعہ دی گئی تفصیلات کے مطابق نہ ہو تو اس کے باعث فروخت میں کمی آجائے گی۔ تال میل نہ ہونے سے سرگرمیوں کی ہم آہنگی اور اتحاد کے بجائے آپسی ٹکراؤ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔

## تال میل کی خصوصیات

### (Characteristics of Coordination)

مندرجہ بالا تعریفیں تال میل کی حسب ذیل خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں:

(i) تال میل اجتماعی کوششوں کے کو متحد کرتا ہے

(Coordination integrates

group efforts) : تال میل غیر متعلق یا متنوع

مفادات کو با مقصد عملی سرگرمی میں متحد کرتا ہے۔ یہ

اجتماعی کوشش کو ایک مشترک مقصد دیتا ہے تاکہ کارکردگی

بالکل ویسی ہی ہو جیسا کہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔

(ii) تال میل وحدت عمل کو یقینی بناتا ہے

(Coordination ensures Unity of

Action) : تال میل کا مقصد ایک مشترک مقصد

کے حصول کے لیے وحدت عمل پیدا کرنا ہے۔ یہ

شعبوں کے درمیان ایک جوڑنے والی قوت کے

طور پر کام کرتا ہے اور یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ

ادارے میں کیے جانے والے تمام کاموں کا نشانہ

ادارے کے مقاصد کا حصول ہوگا۔

آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ فیب مارٹ میں پیداواری

اور فروخت کاری شعبے کو اپنے کاموں میں تال میل

سے کام لینا پڑا تاکہ پیداوار بازاری مانگ کے

مطابق ہو سکے۔

(iii) تال میل ایک مسلسل عمل ہے (Coordination

is a continuous process) : تال میل کسی

(v) تال میل تمام مینجروں کی ذمہ داری ہے

(Coordination is the Responsibility of all Managers)

سرگرمیوں میں تال میل قائم رکھتا ہے تاکہ منصوبوں کے مطابق کارکردگی کو یقینی بنایا جاسکے۔

(vi) تال میل ایک شعوری کام ہے (Coordination is a Deliberate function)

مینجر کو دانستہ اور شعوری طور پر مختلف لوگوں کے کاموں میں تال میل پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک شعبے کے ممبران اراداً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کو انجام دیں تب بھی تال میل ان کے ارادی جذبہ کو ایک سمت عطا کرتا ہے۔ تال میل نہ ہونے

تنظیم کے ہر ایک مینجر کا کام ہے۔ اعلیٰ سطح کے مینجر کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ تال میل قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ادارے کے لیے بنائی گئی تمام پالیسیوں کو عملی جامہ پہنایا جاسکے۔ درمیانی سطح کے مینجر اعلیٰ سطح اور نچلی سطح دونوں کے مینجروں سے تال میل قائم رکھتے ہیں۔ عملی سطح کا مینجمنٹ اپنے کارکنوں کی

### ڈبے والے۔ تال میل کے ذریعے برتری

ممبئی کے ڈبے والے ایک سکس سگما (Six sigma) کاروباری ادارے کی کہانی ہے۔ اس کاروبار کی کامیابی پیچیدہ مگر کافی مربوط کام میں مضمر ہے جو دن بہ دن ممبئی کی گلیوں میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلیقہ مندی کے پیچھے کیا راز ہے جس کے ساتھ وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں؟

ڈبے والوں کی کہانی ممبئی کے باورچی خانوں سے شروع ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ان کارکنوں کے لیے تازہ، گھر میں کپے ہوئے کھانے کی تیاری کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈبے والوں کے نظام کے تال میل کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا ڈبے والا گھر سے نفن کو اٹھاتا ہے اور قریب ترین ریلوے اسٹیشن تک لے جاتا ہے۔ دوسرا ڈبے والا منزل کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر ڈبوں کی چھٹائی کرتا ہے اور ان کو لکچ گیریج میں رکھ دیتا ہے۔ تیسرا ڈبے والا منزل کے قریب ترین ریلوے اسٹیشن تک ڈبوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ چوتھا ڈبے والا ڈبوں کو ریلوے اسٹیشن سے اٹھاتا ہے اور ان کو دفاتروں تک پہنچاتا ہے۔

صبح سویرے، ہزاروں ڈبے والے ممبئی کی گلیوں میں سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں تاکہ اپنے گاؤں کو گھر کا پکا گرم کھانا مہیا کر سکیں۔ ٹفنوں کے پورے ہٹارے میں معمولی تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈبے والوں کا انحصار کم سرمایے اور سائیکل کے استعمال پر ہے۔ وہ اپنے مقصد کو لکڑی کے کیرج (جھلی) اور لوکل ٹرینوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے کئی گروپ ہیں۔ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے آزادانہ طور پر یا ایک دوسرے ساتھ نیٹ ورک بنا کر کام کرتے ہیں۔

ہر علاقہ کئی چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور ہر حصے کو ایک خاص شخص سنبھالتا ہے۔ یہ شخص اس علاقہ کے پتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہ مہارت اور کمال مشق سے حاصل ہوتا ہے۔ کئی نئے ملازمین اپنے سینئروں کی رہنمائی میں مہینوں کام کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی اور اس کا مینجمنٹ ڈبے والوں کے لیے نہایت اہم کام ہے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں ڈبے والوں کو چند منٹوں کی تاخیر بھی کبھی نہیں ہوتی۔

کریں۔ البتہ ممکن ہے کہ ملازمین کے اپنے انفرادی نشانے بھی ہوں۔ اس لیے تنظیمی لیاقت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انفرادی نشانوں اور تنظیمی نشانوں میں تال میل کے ذریعے ہم آہنگی پیدا کی جائے۔

(ii) عمل آوری کے اعتبار سے فرق (Functional differentiation): تنظیم اپنی عمل آوری یا کام

کاج کے اعتبار سے شعبوں، ڈویژنوں اور زمروں میں بٹی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی تنظیم میں مالیات، پیداوار، مارکیٹنگ اور انسانی وسائل کے الگ الگ شعبے ہوں۔ ممکن ہے ان تمام شعبوں کے اپنے مقاصد ہوں، اپنی پالیسیاں ہوں یا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہو۔ مثال کے طور پر مارکیٹنگ کے شعبے کا مقصد رعایتیں فراہم کر کے اپنی فروخت میں 10 فیصد کا اضافہ کرنا ہو، لیکن مالیاتی شعبہ اس طرح کی رعایتیں دینے کی اجازت نہ دے، کیوں کہ اس سے آنے والے محصولات کا نقصان ہوگا۔ تنظیموں میں اس طرح کے تنازعات اس لیے سرابھارتے ہیں کیوں کہ شعبے الگ الگ رہ کر کام انجام دیتے ہیں اور ان کے درمیان دوریوں میں مزید پختگی آتی جا رہی ہے۔

تاہم سبھی شعبے اور افراد ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ان کو ایک دوسرے پر منحصر ہونا ہی ہے تاکہ وہ سرگرمیوں کو انجام دے سکیں۔ ہر شعبے کی سرگرمی کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ مشترکہ تنظیمی نشانوں کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرے۔ مختلف شعبوں کی سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا عمل تال میل کے ذریعے ہی پورا ہوتا ہے۔

(iii) اختصاص (Specialisation): جدید تنظیمیں اپنا اعلیٰ اختصاص رکھتی ہیں۔ اختصاص جدید ٹیکنالوجی کی پیچیدگیوں اور انجام دیے جانے والے نشانوں کے

کی صورت میں تعاون (Cooperation) کرنے سے محنت برباد ہو سکتی ہے اور ملازمین کے درمیان بے اطمینانی پیدا ہو سکتی ہے۔

اس لیے تال میل مینجمنٹ کا ایک علاحدہ کام نہیں ہے بلکہ یہ مینجمنٹ کی روح ہے۔ ہر تنظیم کو اپنے مقاصد کے موثر حصول کے لیے تال میل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالایا ہار میں دھاگے کی مانند تال میل مینجمنٹ کے تمام کاموں کا ایک لازمی حصہ ہے۔

## تال میل کی اہمیت

### (Importance of Coordination)

تال میل قائم کرنا بہت اہم ہے کیوں کہ اس سے افراد، شعبوں اور ماہرین کی کوششوں کو مربوط کیا جاتا ہے۔ تال میل قائم کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کسی تنظیم میں افراد اور شعبے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں یعنی اطلاعات اور وسائل کے لئے وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں تاکہ اپنے متعلقہ کاموں کو انجام دے سکیں۔ اس طرح مینجر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اندازِ نظر، اوقات کار، کوششوں یا مفادات میں پیدا ہونے والے اختلافات کی صورت میں مصالحت کرائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ انفرادی نشانوں اور تنظیمی نشانوں میں یکاگت پیدا کی جائے۔

(i) سائز کے اعتبار سے اضافہ (Growth in size): جیسے جیسے تنظیم میں سائز کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے، تنظیم میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی ان کی کوششوں اور سرگرمیوں کو مربوط کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سبھی افراد کام کرنے کے اپنے طریقے، پس منظر، صورتِ حال سے نمٹنے کے طریقے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام افراد تنظیم کے مشترکہ ہدف یا نشانوں کو پورا کرنے کے لیے کام

## اکیسویں صدی میں منجمنٹ (Management in the twenty first Century)

ابھی آپ اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ادھر تنظیم اور اس کی منجمنٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے کیونکہ مملکوں اور ثقافتوں کی حدیں مٹتی جا رہی ہیں اور نئی کمیونیکیشن ٹکنالوجی نے دنیا کو ایک 'عالمی گاؤں' (Global Village) بنا کر رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی اور ثقافتی تعلقات کا دائرہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ جدید تنظیم ایک عالمی تنظیم ہے جس کا منجمنٹ عالمی تناظر میں کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟

کے حامل افراد کو بھرتی کریں۔ ماہرین عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ پیشہ وارانہ طریقہ کار کے مطابق جانچنے، پرکھنے اور فیصلہ کرنے کے ہی اہل ہیں۔ وہ اپنے اختصاص کے شعبے سے متعلق معاملات میں دوسروں کا مشورہ یا تجاویز لینا پسند نہیں کرتے۔ اس کے سبب اکثر مختلف ماہرین تنظیم کے دیگر افراد کے مابین تنازعات کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس لیے کسی آزادانہ فرد کے ہاتھوں کوئی تال میل قائم کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ماہرین کے انداز نظر، مفادات یا رائے کے اختلافات میں مصالحت کرائی جاسکے۔

### ایک عالمی منیجر کے لیے چیلنج (The Challenge of Being a Global Manager)

رجت لال ایک فرم کا ڈائریکٹر ہے۔ یہ فرم عالمی سطح پر سیاحت کی صنعت کے لیے سافٹ ویئر حل مہیا کرتی ہے۔ وہ ایک امریکی سافٹ ویئر خدمات فراہم کرنے والی فرم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ فرم گڑ گاؤں میں اپنے ساتھ داروں کے لیے پراجیکٹ ورک کو بیرونی ذرائع سے کرایے پر حاصل کرتی ہے۔ گڑ گاؤں شمالی ہندوستان میں سافٹ ویئر کا مرکز ہے۔ یہ پوری دنیا کی ٹکنالوجی، ٹرانسپورٹ اور تفریح سے متعلق کمپنیوں کے لیے سافٹ ویئر تیار کرتا ہے۔ رجت اپنے عالمی صارفین اور اپنی ملکی تکنیکی ٹیم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کام ان منیجروں کی نسبت جو کہ مکمل طور پر ملکی ماحول میں کام کرتے ہیں زیادہ چیلنج سے بھرا ہے۔

رجت کا اپنے کام کے چیلنجوں کے بارے میں کہنا ہے:

- **بحیثیت ملکی منیجر (In the Capacity of the Country Manager):** ایک عالمی منیجر کو جن معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے وہ ہیں علاقائی دفتر کی شکل میں اپنی کمپنی کی قانونی اور کاروباری موجودگی کو قائم کرنا۔ موکلوں، قانونی عہدے داروں بشمول وکیلوں اور امیگریشن افسران سے معاہدے اور بات چیت کرنا۔ یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ خدمات فراہم کرنے کے لیے ہندوستان سے تکنیکی عملے کو یو اے ای ریورپ میں بھی آباد کرنا ہوتا ہے۔ اسے علاقائی کمپنیوں سے بھی معاہدے اور بات چیت کرنی پڑتی ہے جو کہ بھرتی کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ اس کا ایک اور اہم رول اہل موکلوں رگاہوں میں آرام اور سہولت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے بین الاقوامی اور ثقافتی موقعوں پر گاہکوں کو بیرونی طور پر خدمات کرایے پر حاصل کرنے اور عالمی طور پر مہیا کرنے کے، مثبت اثرات بتانے پڑتے ہیں۔

- **بحیثیت ایک عملی منیجر (In the Capacity of the Functional Manager):** ایک عالمی منیجر کو یہ یقین دہانی بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ صحیح تکنیکی اور فنی مہارتوں کو حاصل کرنے، ان فنی مہارتوں سے ایک مضبوط وسائل بنیاد تعمیر کرنے اور عالمی ماحول میں ان فنی مہارتوں سے کام لے کر سافٹ ویئر پراجیکٹ کو سپرد (Deliver) کرنے کے قابل ہے۔ یعنی وہ یہ کام، کثیر وقتی علاقوں (Multiple Time-Zone) میں، صارف کے کاروباری دور کی بنیاد پر اور اس کی ترجیحات کو سمجھ کر، صارف جن طریقوں

اور عمل سے آشنا ہے ان کو سمجھ کر اور اپنا کر، انجام دے سکتا ہے۔ آخر میں اس کام کے اندر صارفین کی توقعات کا منجمنٹ بھی شامل ہے جس میں عملی مینجر کو صارفین کی ترجیحات کے مطابق امریکہ، یورپ اور ہندوستان میں سرگرمیوں میں تال میل قائم کرنا پڑتا ہے اور صارفین کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ اس کے مطابق ہی اپنے ملازمین کی توقعات اور اطمینان کی سطحوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

• **بحیثیت کاروباری رہنما (In the Capacity of the Business Leader):** عالمی مینجر کو تعمیر پذیر کاروباری حالات اور گاہکوں کی ترجیحات کی بھی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ اسے بیرونی ذرائع (Outsourcing) کے رجحانات کی معلومات بھی رکھنی پڑتی ہے اور اس کے پاس آنے والے مواقع اور امکانی خطروں کا ادراک کرنے کی لیاقت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک مینجر کو اس کے صارف مسلسل کاروبار دے رہے ہیں تو ایک کاروباری مینجر کو فرم پر گرفت قائم رکھنے کے لیے بیرونی ذرائع سے متعلق تعمیر پذیر قوانین کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک عالمی مینجر کو ہندوستان کے اندر کام کرنے کے ماحول اور اس کے اپنے ملک میں کام کرنے کے ماحول کے بیچ فرق کے تعلق سے کرگاہکوں کے جو احساسات ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھرپور توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرونی ذرائع ہندوستان کو جو فوائد پیش کرتے ہیں، انھیں اس مینجر کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ فوائد لاگتوں کو کم کرنے اور وسیع طور پر فنی مہارتوں کو حاصل کرنے کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مینجر کو کمزور میدانوں جیسے ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے وغیرہ پر بھی ماہرانہ توجہ دینی پڑتی ہے۔

دور حاضر میں ایک عالمی مینجر کے لیے ان سب کا کیا مطلب ہے؟

مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ دور حاضر میں ایک عالمی مینجر وہ شخص ہوتا ہے جس میں سخت قسم کی فنی مہارتوں کے ساتھ نرم قسم کی مہارتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے مینجر جو تجزیہ، حکمت عملی، انجینئرنگ اور ٹکنالوجی کی سمجھ رکھتے ہیں اب تک ان کی مانگ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالمی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ نہایت اہم مانے جاتے ہیں جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ ٹیم ورک کیسے کیا جاتا ہے، تنظیمیں کیسے کام کرتی ہیں اور لوگوں کو کیسے ترغیب دی جاتی ہے۔ ایک ایسا مینجر جو حقیقتاً مختلف ثقافتوں کی سمجھ رکھتا ہے وہ مغربی یورپ اور انگریزی نہ بولنے والے ممالک میں کام کرنے کے لائق ہوتا ہے اس کے بعد اسے ملیشیا یا کینیا جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا تبادلہ نیویارک (یو ایس اے) کے دفتر میں بھی کیا جاسکتا ہے اور وہ ان تینوں مقامات پر فوری طور پر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایک عالمی مینجر کے رول کا ارتقا بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طریقے پر عالمی معیشت اور صنعت کا ارتقا ہوتا ہے۔ یہ ایک معین کاروباری تناظر میں ایک ایک جہتی رول سے تبدیل ہو کر کثیر رخی رول بن چکا ہے جس میں تکنیکی مہارتوں، نرم منجمنٹ اور لوگوں کی مہارتوں کے متنوع اجتماع کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتی تجربات کو سیکھنے اور قبول کرنے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

Source: Harvard Business School, Working knowledge

### کلیدی اصطلاحات

منظمہ/مینجمنٹ (Management) | عمل (Process) | کفایت/لیاقت (Efficiency) |  
 موثریت (Effectiveness) | آرٹ/فن (Art) | سائنس (Science) |  
 پیشہ (Profession) | منصوبہ بندی (Planning) | تنظیم کاری (Organising) |  
 عملے کی فراہمی (Staffing) | ہدایت کاری (Directing) | کنٹرول کرنا (Controlling) |  
 تال میل (Coordination)

### خلاصہ

#### تصور (Concept)

مینجمنٹ، تنظیم کے مقاصد کے اہل اور موثر حصول کے لیے ادارے کے وسائل کی منصوبہ بندی، تنظیم کاری، عملے کی فراہمی، ہدایت کاری اور کنٹرول کرنے کا عمل ہے۔ مینجمنٹ میں موثریت کا تعلق صحیح کام کو کرنے، سرگرمیوں کو مکمل کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے سے ہے۔ کفایت سے مراد کام کو صحیح طور پر کم سے کم لاگت کے ساتھ انجام دینا ہے۔

#### خصوصیات (Characteristics)

مینجمنٹ کی کلیدی خصوصیات ہیں: (i) مقاصد کی سمت میں کیا جانے والا عمل (ii) تمام جگہ پھیلاؤ (all pervasive) (iii) کثیر رنجی (iv) مسلسل عمل (v) اجتماعی سرگرمی (vi) پرجوش کام (vii) نامرئی قوت (Tangible Force)۔

#### مقاصد (Objectives)

مینجمنٹ سے تین بنیادی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے: یعنی تنظیمی، سماجی اور شخصی رضائی۔

#### اہمیت (Importance)

مینجمنٹ نہایت اہم ہے کیوں کہ یہ اجتماعی مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے، کفایت میں اضافہ کرتا ہے اور ایک فعال تنظیم کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ شخصی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور سماج کی ترقی میں حصہ لیتا ہے۔

#### نوعیت (Nature)

مینجمنٹ علم کی ایک منظم شاخ (سائنس) اور اس کے ماہرانہ اطلاق (آرٹ) کا مجموعہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک پیشے کی تمام شرائط کو پورا نہیں کرتا لیکن اپنی خصوصیات کے اعتبار سے یہ بڑی حد تک پیشہ ورانہ ہے۔

#### سطحیں (Levels)

مینجمنٹ کو ایک تین سطحی سرگرمی مانا جاتا ہے۔ اعلیٰ مینجمنٹ کی توجہ مقاصد اور پالیسیوں کے تعین پر ہوتی ہے۔ درمیانی سطح کا مینجمنٹ دیگر مینیجرز کی کوششوں کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نگران کار مینجمنٹ عملہ یا کارکنوں کے کاموں کی براہ راست نگرانی کرتا ہے۔

**کام (Functions)**

تمام میجر متفقہ طور پر ان باہم مربوط کاموں کو انجام دیتے ہیں: منصوبہ بندی، تنظیم کاری، عملہ کی فراہمی، ہدایت کاری اور کنٹرول کرنا۔

**تال میل (Coordination)**

تال میل مینجمنٹ کی روح ہے۔ یہ تنظیم کے شعبوں اور باہمی طور پر منحصر سرگرمیوں کے درمیان وحدت عمل (Unity of Action) کو حاصل کرنے کا عمل ہے۔

**مشق****مختصر جوابی سوالات**

- 1- لفظ 'مینجمنٹ' کی تعریف بیان کیجیے۔
- 2- مینجمنٹ کی دو اہم خصوصیات بتائیے۔
- 3- ریٹو ایک بڑی کمپنی کے شمالی ڈویژن کی میجر ہے۔ تنظیم میں وہ کس سطح پر کام کرتی ہے؟ اس کے بنیادی کام کیا ہیں؟
- 4- مینجمنٹ کو ایک کثیر رخئی نظریہ کیوں مانا جاتا ہے؟
- 5- بحیثیت پیشہ مینجمنٹ کی بنیادی خصوصیات پر تبصرہ کیجیے۔

**طویل جوابی سوالات**

- 1- مینجمنٹ کو سائنس اور آرٹ دونوں مانا جاتا ہے۔ وضاحت کیجیے۔
- 2- کیا آپ کی رائے میں مینجمنٹ پیشے کی مکمل خصوصیات کا حامل ہے؟
- 3- تال میل مینجمنٹ کی روح ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ وجوہات بیان کیجیے۔
- 4- "ایک کامیاب ادارے کو اپنے مقاصد موثریت اور کفایت کے ساتھ حاصل کرنے پڑتے ہیں۔" وضاحت کیجیے۔
- 5- "مینجمنٹ" مسلسل طور پر ایک دوسرے سے مربوط کاموں کا سلسلہ ہے۔ تبصرہ کیجیے۔

**متبادل جواب والے سوالات**

- 1- مندرجہ ذیل میں سے کیا مینجمنٹ کا کام نہیں ہے۔
  - (a) منصوبہ بندی
  - (b) عملہ فراہمی

(c) تعاون کرنا

(d) کنٹرول کرنا

-2 مینجمنٹ ہے:

(a) ایک آرٹ

(b) ایک سائنس

(c) آرٹ اور سائنس دونوں

(d) دونوں میں سے کوئی نہیں

-3 حسب ذیل میں سے ایک مینجمنٹ کا مقصد نہیں ہے

(a) منافع کمانا

(b) تنظیم کی نشوونما

(c) ملازمت فراہم کرنا

(d) پالیسی بنانا

-4 پالیسی بنانا کام ہے:

(a) اعلیٰ سطح کے مینجروں کا

(b) درمیانی سطح کے مینجروں کا

(c) عملی مینجمنٹ (Operational Management) کا

(d) مندرجہ بالا سب کا

-5 تال میل

(a) مینجمنٹ کا کام ہے

(b) مینجمنٹ کی روح ہے

(c) مینجمنٹ کا مقصد ہے

(d) مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں

### واقعاتی مسائل

-1 آج کل X کمپنی کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ یہ سفید ایشیا جیسے کپڑے دھونے کی مشینیں، مائیکرو یو اوون، فریج اور ایر کنڈیشنرز بناتی ہے۔ کمپنی کی لاگتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا منافع اور بازاری حصہ داری گھٹتا جا رہا ہے۔ پیداواری شعبہ فروخت کے نشانے پورا نہ ہونے کے لیے بازار کاری شعبہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور بازار کاری شعبہ گاہکوں

کی توقعات کے مطابق اچھے معیار کی اشیانہ بنانے کے لیے پیداواری شعبہ کو الزام دینا ہے۔ مالیاتی شعبہ گھٹتے ہوئے منافع کے لیے خراب بازار کاری اور سرمایہ کاری کو ذمہ دار مان کر بازار کاری اور پیداواری دونوں شعبوں پر الزام عائد کرتا ہے۔

آپ کے خیال میں کمپنی کے پاس مینجمنٹ کی کس کوالٹی (Quality) کی کمی ہے؟ مختصراً وضاحت کیجیے۔ کمپنی کے مینجمنٹ کو کمپنی دوبارہ صحیح راستے پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہئیں۔

2- ایک کمپنی گھٹتی ہوئی فروخت کی وجہ سے بازار میں موجود اپنی اشیاء میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ آپ بھی کسی ایسے پروڈکٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس سے آپ آشنا ہوں۔ اس فیصلے کو موثر بنانے کے لیے ہر سطح کے مینجمنٹ کو کیا اقدامات فیصلے کرنے چاہئیں۔

3- ایک فرم پیشگی منصوبہ سازی کرتی ہے اور اس کے پاس کنٹرول نظام اور اہل نگران عملہ (Super visory) کے ساتھ ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہے۔ کئی موقعوں پر ایسا لگتا ہے کہ منصوبوں پر عمل نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور کام دو دو بار ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی تدبیر تجویز کیجیے۔

ان سرگرمیوں کا مقصد نظریات کو مضبوطی فراہم کرنا اور مطالعے کو دلچسپ بنانا ہے۔ ان کا مقصد طلباء کو ان کے فہم و ادراک کے مطابق مینجمنٹ سرگرمیوں کے مشتقی تجربات دینا بھی ہے۔

## سرگرمی 1

کلاس میں بچوں کی تعداد کے مطابق 5-6 طلباء کا الگ الگ گروپ بنائیے۔ انھیں ایک کپڑا بنانے والی کمپنی چلانے کا کام دیجیے۔ ہر ایک گروپ کو حسب ذیل کام سونپئے:

- (i) گروپ 'A' کو کمپنی میں رونما ہونے والی سرگرمیوں کی نشان دہی کرنی ہے۔
- (ii) گروپ 'B' سے کہیے کہ وہ ان سرگرمیوں کے مینجمنٹ سے متعلق اور مینجمنٹ سے غیر متعلق سرگرمیوں کی زمرہ بندی کریں۔
- (iii) گروپ 'C' کی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔
- (iv) گروپ 'D' تنظیم کاری کی سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔
- (v) گروپ 'E' عملے کی فراہمی کی سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔
- (vi) گروپ 'F' ہدایت کاری کی سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔

(vii) گروپ 'G' کنٹرول کرنے کی سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔

(viii) گروپ 'H' تال میل سے متعلق سرگرمیوں کی نشان دہی کرے۔

اس کے بعد ٹیچران سرگرمیوں کا خلاصہ کر کے ان سے مناسب نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ مندرجہ بالا سرگرمی کسی بھی سیکٹر کے لیے کی جاسکتی ہے جیسے سافٹ ویئر، ایکسپورٹ ہاؤس یا آٹو کمپنی۔ ٹیچر کو حقیقی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ وہ حقیقی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے منتخب سیکٹر کے مطبوعہ مواد (Printed Material) اور انٹرنیٹ سے مدد لے سکتا ہے۔ ٹیچر کے ذریعے معلومات تلاش کرنے کی اس مشق میں طلباء کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

## سرگرمی 2

اس سرگرمی میں اعلا، درمیانی اور نچلی مینجمنٹ کی سطحوں پر کی جانے والی ان سرگرمیوں کی نشان دہی اور زمرہ بندی کرنی ہے جو سرگرمی 1 میں کی گئی تھیں۔ اس کے مطابق ہی تینوں سطحوں کے لیے A، B اور C تین گروپ بنائے جاسکتے ہیں۔ اگر ٹیچر چاہے تو وہ زیادہ گروپ بھی تشکیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچران گروپوں کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات کا خلاصہ کر سکتا ہے۔

نوٹ: ٹیچران دونوں سرگرمیوں کے لیے پینل مباحثہ بھی کر سکتا ہے جہاں گروپ کے لیڈر اپنے اپنے اخذ کردہ نتائج بیان کرتے ہیں اور کلاس کے طلباء سوالات پوچھتے ہیں جن کے جواب پینل ممبران کے ذریعے ٹیچر کی مدد سے دیے جاسکتے ہیں۔

یہ مشق طلباء کو حقیقی زندگی میں ایک عملی ماحول کا احساس دلاتی ہے اور وہ اس ماحول کے تعلق سے اپنے مطالعہ کو سمجھ سکتے ہیں۔